

بڑھتی ہوئی فحاشی کی روکتھام کے لئے اس قدم

بدکاری شرعی مسائل



بواحد محمد اس رضا قادری

تخصص فی الفقہ الاسلامی الشہادۃ العالمیہ
لہجہ اے اسلامیہ اے لہجہ اے پنجابی
لہجہ اے اردو

داتا دربار
مکتبہ فیضانِ شریعت

بدکاری کے شرعی مسائل

بواحد محمد اس رضا قادری

مکتبہ فیضانِ شریعت

کتابچہ اے شرعی مسائل
بواحد محمد اس رضا قادری

اداریہ کی دیگر کتب

مکتبہ فیضانِ شریعت
0334-8280312

طلاقِ لاق
مختصری ہمارے

مکتبہ فیضانِ شریعت

موبائل فون
شرعی مسائل

مکتبہ فیضانِ شریعت

منار
اور منار
فترق

مکتبہ فیضانِ شریعت

کربان
مکتبہ فیضانِ شریعت

دین کس کے کمانا؟

مکتبہ فیضانِ شریعت

73
ان کفار

مکتبہ فیضانِ شریعت

مکتبہ فیضانِ شریعت داتا دربار لاہور



علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

<https://archive.org/details/>

@zohaibhasanattari

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زوہیب حسن عطاری

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

جملہ حقوق بحق مصنف وناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ----- بدکاری کے متعلق شرعی مسائل

مصنف ----- ابو احمد محمد انس رضا قادری بن محمد منیر

ناشر ----- مکتبہ فیضان شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

پروف ریڈنگ و نظر ثانی۔ مولانا محمد سعید قادری

قیمت -----

اشاعت اول ----- ربیع الاول 1435ھ، جنوری 2014ء

ناشر

مکتبہ فیضان شریعت داتا دربار مارکیٹ، لاہور

بدکاری

کے متعلق

شرعی مسائل

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

زنا کے عذابات و نقصانات، زانیہ سے نکاح، سالی، ساس، وغیرہ سے زنا پر شرعی حکم

ماں، بہن، بیوی زنا کرے تو؟ لواطت، بیوی کی پیٹھ، جانوروں، مردہ سے بد فعلی، Oral

Sex پر شرعی حکم، کافر و کافرہ سے زنا کا حکم، عورت کا عورت کے ساتھ Sex کرنا، بچہ یا چھوٹی

بچی سے زنا کرنا، زنا کے ثبوت سے متعلق نظریات اور DNA ٹیسٹ کا شرعی تجزیہ،

زنا کے اسباب، زنا کی روک تھام کے اقدام

مصنف

ابو احمد محمد انس رضا قادری

تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

ناشر

مکتبہ فیضان شریعت داتا دربار مارکیٹ، لاہور



صفحہ	مضمون
14	انتساب
15	پیش لفظ
15	انسانی فطرت حیا کو پسند کرتی ہے
16	جانوروں میں زنا کی ناپسندیدگی
17	نعمتیں اور اس کے فطری تقاضے
18	جسمانی اعضاء میں سے اول تخلیق شرمگاہ
19	شہوت اور شیطانی وار
24	شرمگاہ کی حفاظت پر انعامات
28	زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
29	زبردستی زنا (Rape) پرائیمریشنل رپورٹ
31	ہم جنسی (Same Sex)
32	موضوع اختیار کرنے کا سبب
36	❁❁ باب اول: زنا کے عذابات و نقصانات .. ❁❁
36	فصل اول: زنا کے اخروی عذابات
36	شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ
36	زانیوں کو جہنم میں آگ کے تندور میں برہنہ ڈالا جائے گا

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ فیضانِ مدینہ، فیصل آباد	☆ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ، لاہور
☆ کرمانوالہ بک شاپ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ نظامیہ کتاب گھر، اردو بازار، لاہور
☆ مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ مسلم کتابوی داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ شبیر برادرز، اردو بازار، لاہور	☆ مکتبہ شمس و قمر، بھائی چوک، لاہور
☆ فرید بک سٹال، اردو بازار، لاہور	☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ رضا ورائٹی، داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ کتب خانہ امام احمد رضا خان، داتا دربار، لاہور
☆ مکتبہ علامہ فضل حق، داتا دربار مارکیٹ	☆ واضحی پبلی کیشنز، داتا دربار، مارکیٹ، لاہور
☆ مکتبہ قادری اینڈ ورائٹی ہاؤس	☆ مکتبہ لاٹانی اینڈ سی ڈی سنٹر داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ منہاج کتب خانہ اینڈ سی ڈی سنٹر، لاہور	☆ میلا وہیلیٹرز، داتا دربار، لاہور
☆ دارالعلم داتا دربار مارکیٹ، لاہور	☆ دارالنور، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
☆ نور یہ رضویہ، گنج بخش روڈ، لاہور	☆ المعارف کتب خانہ، داتا دربار مارکیٹ
☆ مکتبہ جامعہ نعیمیہ، گڑھی شاہو، لاہور	☆ مکتبہ فیضانِ رضا، سرگودھا
☆ نعیمیہ بک سٹال، مکہ سنٹر، اردو بازار، لاہور	☆ قادری رضوی کتب خانہ، گنج بخش روڈ، لاہور
☆ مکتبہ جمال کرم، دربار مارکیٹ، لاہور	

40	زانی کی مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں
40	زانی کا جنت میں داخلہ ممنوع
42	زانیوں کے چہرے آگ سے بھڑک رہے ہوں گے
42	زانی پر جہنم کے بچھو مسلط کئے جائیں گے
43	زانی کی قبر میں تین ہزار آگ کے دروازے کھلنا
44	زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو
46	زانیوں پر اللہ عزوجل کا غضب
48	زنا کے دوران ایمان جسم سے نکل جاتا ہے
49	زانی کے لئے آگ کا کوڑا
49	زنا پر جہنم کی زرہ
49	فصل دوم: زنا کے دنیاوی نقصانات
54	زنا تنگ دستی لاتا ہے
54	زنا کے تین دنیاوی و اخروی نقصانات
55	زنا تمام برائیوں کا مجموعہ ہے
56	کثرتِ زنا کثرتِ اموات کا باعث ہے
57	فحاشی کا عام ہونا طاعون جیسی بیماریوں کا موجب ہے
59	زنا کی نحوست سے پورا لشکر تتر بتر ہونا
61	زنا سے ہونے والی حرامی اولاد باعثِ فتنہ ہے

63	فصل سوم: مراتبِ زنا
63	کنوارے اور شادی شدہ کا زنا کرنا
64	پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا
65	رشتہ دار سے زنا کرنا
66	بوڑھے آدمی کا زنا کرنا
67	عالم کا زنا کرنا
67	مبارک گھڑی و مبارک جگہ پر بدکاری کرنا
68	فصل چہارم: لواطت (Homosexuality) کا عذاب
68	لواطت زنا سے بھی بدتر ہے
69	جانور بھی لواطت نہیں کرتے
69	لواطت کرنے والے پر لعنتوں کی برسات
70	لواطت کرنے والے پر رب تعالیٰ کا غضب
72	لواطت کرنے والا قبر کے اندر خنزیر کی شکل میں
73	لوطی لواطت کی حالت میں قبر سے نکلے گا
73	لوطی قیامت والے دن بندر اور خنزیر کی شکل میں
73	لواطت کرنے والے کا حشر قوم لوط کے ساتھ
74	لوطی جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا
74	لواطت اور اس کی نجاست

114	زنا کی مختلف صورتیں
116	زنا کی شرعی سزا
119	زبردستی زنا (Rape) کے متعلق احکام
123	چھوٹی بچی سے زنا
124	متعہ اور اس کی سزا
125	لواطت کی سزا
127	جانور سے بدکاری کرنے کی سزا
130	بیوی کی دبر (پچھلے مقام) میں جماع
136	اورل سیکس (Oral Sex)
143	مردہ سے زنا
144	زنا کا ثبوت
146	DNA ٹیسٹ کا شرعی تجزیہ
162	لواطت کا ثبوت
163	مشت زنی کی سزا
136	فصل دوم: زنا اور نکاح
163	زانیہ سے نکاح
166	زنا سے ہونے والی حاملہ عورت سے نکاح
168	فصل سوم: حرمت مصاہرت

75	زمین کا لواطت پر چلانا
75	لواطت کرنے والے کے فرض و نوافل قبول نہیں
76	لواطت کے دنیاوی نقصانات
91	عورت کا عورت کے ساتھ Sex کرنا
92	امر و پسندی
95	فصل پنجم: مشت زنی (Masturbation) کا عذاب
95	مشت زنی کرنے والا لعنتی ہے
95	مشت زنی کرنے والے پر رب تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہونا
96	مشت زنی پر امت کو عذاب
97	مشت زنی کرنے والوں کا قیامت والے دن حال
97	مشت زنی کے دنیاوی نقصانات
109	❁ باب دوم: زنا کے متعلق شرعی احکام ❁
109	فصل اول: زنا، لواطت اور مشت زنی کی سزا
109	زنا کی حرمت
109	زنا کے حلال ہونے کی تمنا کرنا
110	کافرہ عورت سے زنا
111	زنا کے حرام ہونے کی حکمتیں
113	زنا کی تعریف

202	بے حیائی اور کفر
203	بے حیائی کی تباہ کاریاں
204	میاں بیوی کا خفیہ باتیں دوستوں میں کرنا
205	بیوی کو اسکے شوہر سے بدظن کرنا
207	دیوث
209	یورپی ممالک کی بے حیائی کو پسند کرنے والوں پر حکم
209	دوسرا سبب: میڈیا
211	تیسرا سبب: والدین کی لاپرواہی
214	چوتھا سبب: شادی میں تاخیر
214	شادی میں تاخیر پر والد پر وبال
216	بیوہ کا نکاح کرنا اور نہ کرنا کب بہتر ہے؟
218	پانچواں سبب: میاں بیوی میں دوری
219	چار ماہ سے زائد شوہر بیوی سے دور نہ رہے
220	شوہر صحبت کے لئے بلائے تو بیوی پر اطاعت لازم ہے
222	عورت کی شان و فادار ہونا ہے
223	عورت کا بے حیا ہونا شیطان کو زیادہ پسند ہے
224	چھٹا سبب: عشق مجازی کا فروغ
224	اللہ عزوجل اور رسول ﷺ کی باہم محبت

171	حرم مصاہرت میں دونوں طرف سے شہوت ہونا ضروری نہیں
172	شہوت کی تعریف
173	حرم مصاہرت اور متارکہ
174	سالی سے زنا
175	فصل چہارم: زانی کو زنا سے روکنے کے متعلق احکام
175	زنا پر حد لگانے کا اختیار کس کو ہے؟
177	امام مسجد اگر زانی ہو تو کیا کریں؟
178	بیوی زانیہ ہو تو.....
180	اگر بہن زانیہ ہو.....
181	جس کے گھر والوں میں سے کوئی زانیہ ہو.....
187	اولاد اگر زانی ہو.....
190	والدین میں سے کوئی زانی ہو.....
191	سوتیلی ماں اگر زانیہ ہو.....
193	نوکرانی کے ساتھ زنا ہونے کا خطرہ ہو.....
194	فصل پنجم: زنا سے توبہ کا طریقہ
200	❁ باب سوم: زنا کے اسباب ❁
200	پہلا سبب: بے حیائی کا ماحول
200	اسلام اور حیا

248	عورت کا مرد سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ
249	اگر مرد کو عورت سے بات کرنے میں شہوت آئے
249	مرد و عورت کا باہم سلام
249	چوتھا قدم: عورت و مرد کا اپنی نظر کی حفاظت کرنا
250	مرد کا مرد اور عورت کا عورت کو دیکھنا
251	عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا
252	مرد کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا
255	جوان عورت کا اپنے پیر کے سامنے بغیر پردہ آنا
256	جس سے نکاح کرنا ہو اسے ایک نظر دیکھنا
257	مرد کا محارم عورتوں کو دیکھنا
257	میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا
258	پانچواں قدم: خلوت سے اجتناب
258	اجنبیہ مرد و عورت کا تنہا ہونا حرام ہے
262	عورت کی نوکری کی شرائط
262	قریبی غیر محرم رشتہ دار سے خلوت زیادہ خطرناک ہے
264	چھٹا قدم: نیکوں کی صحبت اختیار کرنا
264	کامل پیر سے نسبت زنا سے بچاتی ہے
267	حرفِ آخر

225	سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہو؟
226	عشق مجازی کی تباہ کاریاں
229	حضرت علی کا قاتل بد بخت عاشق
230	سچا عاشق کون؟
231	اگر عشق ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟
233	شہادت کی موت مرنے والا عاشق
234	عشق اور جنت
234	بہترین عاشق
234	یہ ضروری نہیں کہ جس سے محبت ہو نکاح بھی اسی سے ہو
235	ساری رات محبوبہ سے فون پر باتیں کرنے والوں کے لئے تنبیہ
236	ساتواں سبب: اسلامی تعلیمات کی کمی
238	باب چہارم: زنا کی روک تھام کے اقدام
238	اسبابِ زنا سے بچنا ضروری ہے
241	پہلا قدم: اسلامی تعلیمات کا نفاذ
242	دوسرا قدم: شرعی پردہ
244	بے پردگی اور بد نگاہی کا وبال
245	بے پردگی اور گھروالوں کا کردار
248	تیسرا قدم: عورتوں کا مردوں سے کلام میں احتیاط

افتساب

پاکدامن، شرم و حیا کی پیکر ہستیوں حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا ”ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة“ ترجمہ: میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جلد 4، صفحہ 1866، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

وہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی پاکدامنی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار“ ترجمہ: بیشک فاطمہ نے پاکدامنی اختیار کی تو اللہ عزوجل نے اس پر اور اس کی اولاد پر آگ کو حرام کر دیا۔

(المعجم الكبير، ومن مناقب فاطمة رضی اللہ عنہا، جلد 22، صفحہ 406، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

267	کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بہن بیٹی سے عشق کرے؟
269	آج اپنی نظر کی حفاظت کر لو کل کو تمہارے گھر والوں کی حفاظت ہوگی
269	زنا ایک قرض ہے
272	زنا سے بچنے کا نسخہ
275	-----المصادر والمراجع-----

پیش لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ عزوجل نے انسان کو اشرف المخلوقات اور اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ انسان کی ہیئت کو خوبصورت بنایا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانے کی قوت بخشی، عقل سلیم عطا فرمائی، اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوقات میں مختلف خصوصیات رکھی ہیں فرشتوں میں نورانیت رکھی، جانوروں، چرند پرند میں خوبصورتی، بہادری، وفاداری وغیرہ عطا فرمائی اور ان تمام مخلوقات کے خصائص کو انسان میں اکٹھا کر دیا اور اسے عقل سلیم عطا فرما کر مخلوق پر شرف بخشا۔ اگر انسان ان خواص کو بروئے کار لائے تو زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ ہے اور اگر نفس کے ہاتھوں عاجز آجائے اور اچھے برے کی تمیز بھول جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی فطرتی طور پر نفع و نقصان کی تمیز رکھتے ہیں۔ جانوروں کا مقصد کھاپا کر، اپنی شہوت نکال کر، آخرت کے خوف سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ اگر انسان بھی ایسا ہو جائے کہ کھانا پینا اور بد فعلی کے ذریعے اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنا اپنا مقصد بنا لے تو یہ انسانی فطرت سے پھرنا اور جانوروں سے بھی بدتر ہونا ہے۔

انسانی فطرت حیا کو پسند کرتی ہے

انسانی فطرت شرم و حیا کو پسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جنتی لباس واپس لیا گیا تو انہوں نے فوراً جنتی پتوں سے اپنے جسم مبارک کو ڈھانپ لیا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ﴾

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ (سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 22)

جب انسان کا فقط اپنے ستر کو ظاہر کرنا ایک غیر فطری فعل ہے تو پھر بے حیائی خصوصاً زنا کرنا کیسے فطری طور پر درست ہو سکتا ہے؟

جانوروں میں زنا کی ناپسندیدگی

زنائی جانوروں میں بھی ناپسند کیا جاتا ہے۔ غذاء الالباب فی شرح منظومۃ الآداب میں شمس الدین ابوالعون محمد بن احمد السفارینی الحنبلی (المتوفی 1188ھ) لکھتے ہیں ”ویکفی فی قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع کمال رحمته شرع فیہ أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذیب فاعله . ومن قبحه أن الله فطر علیه بعض الحيوان البهيم الذى لا عقل له، كما ذكر البخارى فى صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودى قال : رأيت فى الجاهلية قردا زنى بقردة، فاجتمع عليهما القروذ فرجموهما حتى ماتا، وکنت فیمن رجمهما“ ترجمہ: زنا کے قبیح ہونے میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ عزوجل نے کمال رحمت کے باوجود زنا کی سزا (ایک صورت میں) نہایت بُرے، مشکل اور رسوا کن طریقے سے قتل کرنا رکھی ہے اور حکم دیا کہ مؤمنین بندے اس سزا کے وقت موجود ہوں۔ زنا کی قباحت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل نے بعض جانوروں کی طبیعت میں زنا کی نفرت رکھی ہے جبکہ جانوروں میں عقل و گویائی نہیں ہے جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عمرو بن ميمون اودى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بندر کو بندریہ سے وٹھی کرتے ہوئے دیکھا، ان دونوں کے پاس کئی

بندر جمع ہوئے اور انہوں نے ان دونوں کو رجم کیا یہاں تک کہ وہ دونوں مر گئے اور میں بھی ان کو رجم کرنے والوں میں سے تھا۔

(غذاء الألباب فی شرح منظومة الآداب، جلد 2، صفحہ 441، مؤسسة قرطبة، مصر)

یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندروں میں زنا کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ان میں بھی نکاح ہوتا ہے؟ تو بظاہر اس کا جواب یہ سمجھ آتا ہے کہ بندر یا بندریہ پہلی مرتبہ جس سے صحبت کر لیں اب اس کے علاوہ کسی اور سے صحبت کرنا زنا ہوگا۔ ایک کتاب میں یہی صورت میں نے کبوتر کے متعلق پڑھی ہے کہ کبوتر جس کبوتری سے صحبت کرتا ہے، اب پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس کبوتری سے صحبت کرے اور کبوتری بھی پسند نہیں کرتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

نعمتیں اور اس کے فطری تقاضے

اللہ عزوجل کی عطا کردہ جملہ نعمتیں اور انہیں استعمال کرنے کے احکامات فطرت کے عین مطابق ہیں۔ بنظر غائر دیکھا جائے تو اللہ عزوجل کے احکامات انہی نعمتوں کے تقاضوں پر مشتمل ہیں، جس چیز کا جو تقاضا تھا اس سے متعلق ویسا ہی حکم جاری فرما دیا جیسے شرمگاہ اس بات کی مقتضی تھی کہ چھپائی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، تو چھپانے اور حفاظت کرنے کا حکم ہوا اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے بیوی اور لونڈی کو خاص فرما کر بقیہ جگہ اس کا استعمال حرام ٹھہرا دیا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں

پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان دو (زوجہ اور باندی) کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ (سورۃ المؤمن، سورۃ 23، آیت 5 تا 7)

جسمانی اعضاء میں سے اول تخلیق شرمگاہ

اللہ عزوجل نے انسان کے جسمانی اعضاء میں سے سب سے پہلے شرمگاہ کو تخلیق فرمایا اور حکم دیا کہ اسے حق کی جگہ استعمال کیا جائے۔ ذم الہوی میں جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عن عبد اللہ بن عمرو قال اول ما خلق الله من الانسان فرجه فقال هذه امانتي عندك فلا تضعها الا في حقها“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے انسان کے جسم میں سے شرمگاہ کو پیدا فرمایا، تو اللہ عزوجل نے فرمایا یہ میری تیرے پاس امانت ہے، اسے اس کے حق کے سوا کسی اور جگہ استعمال نہ کرنا۔

(ذم الہوی، صفحہ 188)

شرمگاہ کی اول تخلیق میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ سبب زندگی ہے۔ انسان نطفہ کے روپ میں باپ کی شرمگاہ سے نکلتا ہے اور پیدائش ماں سے ہوتی ہے۔ انسان میں شہوت اس وجہ سے رکھی کہ اس کے یہ نسل بڑھانے میں ضروری ہے کہ بغیر شہوت کے صحبت ممکن نہیں، اب اس شہوت کو حلال جگہ پر رکھنا اور حرام سے بچانا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر شہوت کے فتنوں کا خوف فرمایا چنانچہ روضۃ الحسین میں محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ (المتوفی 751ھ) لکھتے ہیں ”قد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: لا یؤمن أحدکم حتی یکون ہواہ تبعاً لما جئت بہ و صح عنه أنه قال: أخوف ما أخاف علیکم شہوات الغی فی

بطونکم و فروعکم و مضلات الهوی“ ترجمہ: تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لیں جو احکام میں لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کا میں تم پر زیادہ خوف کرتا ہوں وہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں میں موجود شہوات اور خواہشات کی گمراہی ہے۔

(روضۃ المحبین و نزهۃ المشتاقین، صفحہ 477، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

شہوت اور شیطانی وار

شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس نے قسم کھا کر کہا تھا ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُوَدِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بھلا دے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

(سورۃ الحج، سورۃ 15، آیت 39، 40)

اس شیطان کا بہت مضبوط جال شرمگاہ ہے جس کے سبب وہ شہوت کے ہاتھوں عاجز آئے ہوئے غلاموں کو پھانستا ہے اور راہِ راست سے بھٹکا تا ہے۔ الترغیب والترہیب میں ہے ”عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن إبليس يبعث جنوده إلى المسلمين فقال: أياكم أضل رجلاً ألبسته التاج، فإذا رجعوا قال لبعضهم ما صنعت؟ قال: ألقى بينه وبين أخيه عداوة، قال: ما صنعت شيئاً سوف يصالحه، ثم يقول للآخر: ما صنعت؟ قال: ما زلت به حتى طلق امرأته، قال: ما صنعت شيئاً سوف يتزوج أخرى، فقال

للآخر: ما صنعت؟ قال: لم أزل به حتى شرب الخمر، قال: أنت أنت، ثم يقول للآخر: ما صنعت؟ فيقول: ما زلت به حتى زنى، قال: أنت أنت، ثم يقول للآخر: فأنت ما صنعت؟ قال: ما زلت به حتى قتل، فيقول: أنت أنت“ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک شیطان اپنے شیطانی لشکر کو مسلمانوں کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم میں سے زیادہ کسی شخص کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ جب یہ لشکر (لوگوں کو گمراہ کر کے) واپس آتا ہے تو شیطان ان میں سے بعض سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دو بھائیوں میں عداوت ڈال دی۔ شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا وہ بھائی دو بارہ عنقریب صلح کر لیں گے۔ پھر دوسرے سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتا ہے تم نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا وہ شخص کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے گا۔ مزید اور سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں شخص سے دور نہیں ہوا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی۔ شیطان کہتا ہے تم تم (یعنی تم نے بڑا کام کیا) پھر اور سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مسلسل لگا رہا یہاں تک کہ شخص نے زنا کر لیا۔ شیطان اسے بھی کہتا ہے تم تم۔ پھر اور سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کروا دیا شیطان اسے بھی کہتا ہے تم تم۔ (الترغیب والترہیب، باب الزانی، باب التریب من الزنا، جلد 2، صفحہ 237، دار الحدیث، القاہرہ)

اسی طرح کی ایک روایت الکبائر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 748ھ) نقل کرتے ہیں ”ثم یجسیء الآخر فیقول لم أزل بفلان حتی زنی فیقول إبلیس نعم ما فعلت فیدنیہ منہ ویضع التاج علی رأسہ“ ترجمہ: پھر دوسرے کے پاس آتا

ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا۔ شیطان کہتا ہے یہ تو نے بڑا کام کیا۔ تو اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اس کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے۔

(الکبائر، صفحہ 50، دار الندوة الجديدة، بیروت)

کہا جاتا ہے کہ قوم لوط میں لواطت کا موجد بھی شیطان تھا چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”رونق التفسیر میں امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مروی ہے: سب سے پہلے قوم لوط کا کام جس نے کیا وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ وہ ایک خوبصورت ہجرے کی شکل میں ان کے پاس گیا اور ان کو اپنے ساتھ بدکاری کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کے بعد ہر مسافر کے بارے میں ان کی یہ عادت بن گئی۔“

(مکاشفة القلوب، صفحہ 182، مکتبہ اسلامیات، لاہور)

شیطان ہر شخص کو زنا پر لگانے کیلئے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے، پہلے عورتوں سے باتیں کرنے میں دل کو تسکین پہنچاتا ہے، پھر کسی عورت کی یاد کو دل میں تازہ رکھتا ہے اور اس کے خیالات میں دل و دماغ کو لگاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ بندہ زنا کر لیتا ہے۔ اگر کوئی دینی ذہن کا ہو تو اس کے ساتھ بھی ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں جبکہ وہ بدکاری کی طرف جا رہا ہوتا ہے جیسے کسی مظلوم عورت کا دکھ سننے کے بہانے اور اس کو شرعی مسائل بتانے کے بہانے قریب کرے گا، رفتہ رفتہ اس عورت کی مظلومیت اس شخص پر اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ خود اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ کبھی اسکے روحانی علاج کے بہانے اس فتنہ میں مبتلا کرے گا۔ الغرض شیطان ایسے ایسے وار کرتا ہے کہ بڑے بڑے عاجز آجاتے ہیں۔ میرے پاس ایک عامل کسی شرعی مسئلہ کے حوالے سے آیا اور اس نے خود اپنا واقعہ بتایا جس کا تعلق اس کے شرعی مسئلہ کے ساتھ تھا کہ وہ خود شادی شدہ تھا اور ایک امیر زمیندار شخص کی نوجوان بیٹی کا روحانی علاج

کرنے گیا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس پر جنات کے اثرات ہیں۔ لڑکی کے گھر والوں کا پردے کے متعلق ذہن نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ عامل اور لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے۔ عامل نوجوان لڑکی کا علاج کرتے کرتے خود زنا کا مریض بن گیا۔ جب لڑکی کے بھائی کو شک ہوا تو اس نے عامل سے کہا کہ اب ہماری بچی ٹھیک ہے، آپ آئندہ نہ آیا کریں۔ عامل پر یہ سن کر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب شیطان نے عامل اور لڑکی کے دماغ میں جو خیال ڈالا وہ یہ تھا کہ لڑکی نے کچھ دنوں بعد جان بوجھ کر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ اس پر اثرات ہیں، پھر لڑکی نے کہا کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ۔ فلاں عامل سے مراد وہی اس کا پرانا عامل نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ گھر والے اس اشارے کو روحانیت سمجھتے ہوئے اس عامل کے پاس لڑکی کو لے گئے۔ جبکہ یہ اشارہ درحقیقت زنا کا کام جاری رکھنے کی پلاننگ تھی۔ وہ اس طرح کہ زانی عامل نے لڑکی سے یہ سب کرنے کو کہا اور جس نئے عامل کا اشارہ تھا وہ اس زانی عامل کا دوست تھا۔ یہ زانی اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جب لڑکی والے تمہارے پاس علاج کرنے آئیں تو ان کا پتہ پوچھ کر میرے حوالے سے کہنا کہ آپ کے علاقے میں تو ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے، آپ اسے چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ یعنی اس عامل نے لڑکی کے گھر والوں کو بیوقوف بناتے ہوئے اسی زانی عامل کے جھوٹے فضائل بیان کر دیئے اور دوبارہ زنا پر لگا دیا۔ پھر یہ زنا آہستہ آہستہ خطرناک صورت اختیار کر گیا۔

شیطان کے اس طرح کے مکرو فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب (عبادت گزار) تھا۔ شیطان ایک لڑکی پر حملہ آور ہوا اور اس کا گلا دبانے لگا اور اس

کے گھروالوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس لڑکی کا علاج اس راہب کے پاس ہے۔ وہ لوگ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس آئے۔ راہب نے لڑکی کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اصرار کرتے رہے، آخر کار وہ رضامند ہو گیا۔ وہ چند روز اس کے پاس بغرض علاج رہی، تو شیطان راہب کے پاس آیا اور لڑکی کے ساتھ زنا پر اسے آمادہ کیا اور لگاتار اس کی شش میں رہا۔ آخر راہب نے لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر شیطان نے راہب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لڑکی کے گھر والے آئیں گے تو ذلیل ہوگا، اس لئے لڑکی کو قتل کر دے۔ راہب نے اسے قتل کر دیا اور اسے دفن کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے راہب کے پاس آئے اور لڑکی کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا وہ (طبعی موت) فوت ہو چکی ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا تا کہ اسے قتل کر دیں۔ اب شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا: میں نے ہی اس لڑکی کا گلا دبا یا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کو تیری طرف آنے کی بات سمجھائی تھی۔ اب تو میری اطاعت کر بیچ جائے گا اور میں تجھے ان سے چھڑا دوں گا۔ اس نے پوچھا: کیا کروں؟ شیطان نے کہا: مجھے دو بار سجدہ کرو۔ اس نے اسے دو سجدے کر دیئے۔ اب شیطان نے کہا: میں تجھ سے بیزار ہوں (یعنی جاؤ مرو) اللہ تعالیٰ نے اس بات کو (قرآن میں) بیان فرمایا ﴿كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: شیطان کی کہادت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں۔“

(مکاشفة القلوب، صفحہ 669، مکتبہ اسلامیات، لاہور)

اسی طرح کے شیطانی منصوبے استعمال کر کے آج بھی کئی لوگ زنا پر لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کا انجام سامنے آتا ہے اس وقت سوائے تباہی کے کچھ باقی نہیں رہتا۔

شرمگاہ کی حفاظت پر انعامات

جو شیطان کے مکرو فریب میں نہ آیا اور شہوت کو اپنا غلام بنا لیا وہ مجاہد ہوا۔ روضۃ المحبین میں ابن قیم لکھتا ہے ”فی المسند من حدیث فضالة بن عبید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المجاہد من جاهد نفسه فی ذات اللہ والعاجز من أتبع نفسه هو اہا وتمنی علی اللہ“ مسند میں حدیث فضالہ بن عبید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجاہد وہ ہے جو اللہ عزوجل کے لئے اپنے نفس سے جہاد کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس و خواہش کی اتباع کرے اور اللہ عزوجل پر (اچھے کی) امید رکھے۔

(روضۃ المحبین ونزبۃ المشتاقین، صفحہ 399، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

جب اللہ عزوجل نے کامل مؤمنین کی صفات کا ذکر کیا وہاں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کو شامل کیا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ترجمہ کنز الایمان: بیشک مراد کو پہنچے ایمان والے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

(سورۃ المؤمنون، سورۃ 23، آیت 1، 5)

احادیث مبارکہ میں بھی شرمگاہ کی حفاظت پر بشارتیں ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شباب قریش، احفظوا فروجکم لا تنزوا، ألا من حفظ فرجہ فلہ الجنة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے نوجوانو! اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ آگاہ ہو جاؤ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔

(شعب الایمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 302، مکتبۃ الرشید، ریاض)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجله أضمن له الجنة“ ترجمہ: سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو مجھے اس کی ضمانت دے جو اسکے جبرڑوں کے درمیان ہے (یعنی زبان) اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے (یعنی شرمگاہ) تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، جلد 8، صفحہ 100، دار طوق النجاة، مصر)
ابن قیم لکھتا ہے ”عن يزيد بن ميسرة قال إن الله تعالى يقول أيها الشاب التارك شهوته لى المتبذل شبابه من أجلى أنت عندى كبعض ملائكتى وذكر إبراهيم بن الجنيد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له أنت قد سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم قال فأغلقى الأبواب فأغلقتها فلما دنا منها قالت بقى باب لم أغلقه قال أى باب قالت الباب الذى بينك وبين الله فلم يتعرض لها“ ترجمہ: حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے فرمایا: اے نوجوان جو اپنی شہوت کو میرے لئے ترک کر دے، اپنی جوانی میری تابعداری میں گزار دے تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میرے بعض فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن جنید نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بد فعلی کے لئے آمادہ کیا تو اس عورت نے کہا تحقیق تم نے قرآن و حدیث سے سنا ہے اور تم زیادہ جانتے ہو۔ آدمی نے کہا کہ سب دروازے بند کر دو، تو عورت نے سب دروازے بند کر دیئے۔ جب مرد عورت کے قریب

ہوا، عورت نے کہا کہ ایک دروازہ ابھی باقی ہے۔ مرد نے کہا کون سا؟ تو عورت نے کہا: وہ دروازہ جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے۔ مرد نے عورت سے زنا کا ارادہ ترک کر دیا۔ (روضۃ المحبین و نزیبۃ المشتاقین، صفحہ 395، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

قدرت ہونے کے باوجود خوف خدا کے سبب زنا کو ترک کرنے والا کمال قیامت کو عرش کے سایہ میں ہوگا چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله فى ظله، يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ فى عبادة ربه، ورجل قلبه معلق فى المساجد، ورجلان تحاببا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سات شخص ہے کہ جنہیں اس دن اللہ عزوجل اپنے سایہ (رحمت) میں رکھے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا (یعنی قیامت والے دن):

(1) ایک وہ شخص جو عادل بادشاہ ہو۔ (2) وہ شخص کہ جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا (3) وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے (4) وہ دو شخص کے اللہ عزوجل کی محبت میں اکٹھے ہوئے اور اللہ عزوجل کی محبت میں جدا ہوئے (5) وہ شخص کہ جسے ذات و منصب والی عورت نے (بدکاری کے لئے) بلایا اور اس شخص نے کہا کہ میں اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں (6) وہ شخص جو خفیہ صدقہ کرے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا ہے (7) وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ عزوجل کا ذکر کیا

اور اس کی آنکھیں تر ہو گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، جلد 1، صفحہ 133، دار طوق النجاة، مصر)

روضۃ الجہنم میں ہے ”وقال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فقال في خطبته: من قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة من الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر وحرمه على النار وأدخله الجنة“ ترجمہ: ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنے خطبہ میں فرمایا: جو کسی عورت یا لونڈی پر حرام طریقے سے قدرت پائے اور اسے اللہ عزوجل کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ عزوجل اس شخص کو غم کے فزع الاکبر (یعنی بڑی گھبراہٹ) کے دن (قیامت) سے امن دے گا اور اس پر جہنم کو حرام فرمادے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔

(روضۃ المحبین ونزبۃ المشتاقین، صفحہ 452، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

جس طرح ستر کی حفاظت دخول جنت کا سبب تو اسی طرح اس سے بے پرواہی کا برتاؤ دخول جہنم کا سبب ہے چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: التقوى، وحسن الخلق، وسئل ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجو فان: الفم والفرج“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل جنت میں جانے کا زیادہ سبب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: تقویٰ اور حسن اخلاق۔ سوال ہوا کہ کون سا عمل جہنم میں لے جانے کا زیادہ سبب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الذنوب، جلد 2، صفحہ 1418، دار احیاء الکتب العربیۃ، فیصل عیسیٰ البابی الحلبي)

زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے

قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زنا کی کثرت ہونا بھی ہے۔ مصنف عبد الرزاق، ترمذی اور بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنا کے عام ہونے کے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی شرائط میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل ظاہر ہوگا، شراب پی جائے گی اور زنا ظاہر ہوگا۔

(صحیح بخاری، کتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، جلد 1، صفحہ 27، دار طوق النجاة، مصر)

آج زنا ہر خطے میں کثرت سے ہو رہا ہے، سلطنتیں اسلامیہ اور غیر اسلامیہ میں کوئی خطہ بھی اس خبیث و لعین فعل سے پاک و محفوظ نہ رہا اگرچہ یورپین ممالک میں سرعام قانونی طور پر اس کے جرم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے مگر آج نام کی سلطنتیں اسلامیہ میں بسنے والے، خود کو مسلمان کہنے و کہلانے والے بھی اس کے جراثیم و تعفن سے پاک نہ رہے، بلکہ بعض سلطنتیں اسلامیہ صرف ریپ کو زنا کہنے کا قانون پاس کروانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ سب انگریزوں کی اتباع ہے کہ ان کے قانون کے مطابق یہ حرام فعل صرف اسی صورت میں ناجائز ہے جب دونوں میں سے ایک کی رضا مندی نہ ہو۔ زنا کو حلال سمجھنا قرب قیامت کی واضح نشانی ہے۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

باحوالہ ملاحظہ ہو:-

Statement on Rape and Pregnancy

August 20, 2012

Washington, DC -- Each year in the US, 10,000–15,000 abortions occur among women whose pregnancies are a result of reported rape or incest.

(www.acog.org/About_ACOG/News_Room/News_Releases/2012/Statement_on_Rape_and_Pregnancy)

اسی طرح جو جتنا بڑا یورپین ملک ہے اس میں زنا اور ریپ اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اسلامی ممالک جن میں کوئی ایک بھی ملک اسلامی سزاؤں کو نافذ کئے ہوئے نہیں ہے لیکن کچھ اسلامی روایات ہونے کے سبب زنا اور ریپ کی تعداد یورپین ممالک کی بنسبت کافی کم ہے۔ چند ممالک کی رپورٹ پیش خدمت ہے:-

Country	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
U.A.E	44	52	62	72				
Qatar	11	13						
Kuwait		98	108	125	137	120	119	
Eahrain	19	27	25	17	21	36		
Jordan			78	110				
Oman					132	183		

مروی ہے ”آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستكون أربع فتن: فتنۃ يستحل فیہا الدم، والثانیۃ يستحل فیہا الدم والمال، والثالثۃ يستحل فیہا الدم والمال والفرج“ ترجمہ: چار فتنے ہوں گے ایک خون کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرا خون مال کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرا خون مال اور زنا کو حلال سمجھا جائے گا۔

(المعجم الكبير، باب العين، أبو معبد عن الحسن عن عمران بن حصین، جلد 18، صفحہ 180، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرۃ)

زبردستی زنا (Rape) پر انٹرنیشنل رپورٹ

انٹرنیٹ کی مشہور ویب سائٹ ویکیپیڈیا میں 2003 سے لے کر 2010 تک ہونے والے زبردستی زنا Rapel کی رپورٹ موجود ہے اس میں سے چند مشہور ممالک کا حال پیش خدمت ہے:-

Country	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
America	93883	95089	94347	94472	92610	90750	89241	84767
England	13272	14013	14443	13774	12673	13096	15084	15934
Japan	2472	2176	2076	1948	1766	1582	1402	1289
India		18233	18359	19348	20737	21467	21397	22172
Israeel		1319	1223	1291	1270	1243		
Sweden	2235	2261	3787	4208	4749	5446	5937	5960

یہ یورپین ممالک کا حال ہے۔ یہ رپورٹ فقط زبردستی زنا کی ہے، اگر دونوں راضی ہوں تو یہ ان کے نزدیک زنا ہی نہیں۔ زنا اور ریپ میں سرفہرست امریکہ ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن، ڈی۔ سی کی اگست 2012 کی رپورٹ ہے کہ جنوری سے لے کر اگست تک دس سے پندرہ ہزار زبردستی زنا سے ہونے والے حمل ضائع کئے گئے ہیں پوری عبارت

ان عرب ممالک میں سے کویت کی خستہ حالت اس وجہ سے ہے کہ اس پر امریکہ ڈھیرے لگائے بیٹھا ہے اور وہاں کے عربی انہیں راضی کرنے پر لگے ہیں۔ جن جن اسلامی ممالک میں ان انگریزوں کا اثر سوخ زیادہ ہے وہاں بے حیائی کا یہی حال ہے۔ ترکی جو مسلمان ملک ہے، جو کبھی اسلام کا قلعہ تھا، اب جب یہ یورپین ممالک میں شامل ہو چکا ہے تو اس میں ہونے والے زبردستی زنا کی تعداد ملاحظہ ہو۔

Country	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Turkey	1604	1638	1694	1783	1148	1071		

(http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics)

ہم جنسی (Same Sex)

آج جہاں زنا کے متعلق احادیث کی پیشین گوئیوں کی تصدیق ہو رہی وہاں ہم جنسی کے متعلق موجود احادیث کی بھی تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یورپین ممالک میں زنا کے ساتھ ساتھ ہم جنسی کو فروغ دیا جا رہا ہے یعنی مرد کا مرد سے ناجائز تعلقات قائم رکھنے اور عورت کا عورت سے ناجائز تعلقات کو قانونی طور پر جائز کیا جا رہا ہے۔ یہی وہاں پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور بعض بے حیاسی کی تائید کر رہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ مجمع الزوائد میں ہے ”عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استحللت أمتى ستاً فعليهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن و شربوا الخمر و لبسوا الحرير و اتخذوا القيان و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

جب میری امت چھ (حرام) چیزوں کو حلال سمجھ لی گی اس وقت ان کی ہلاکت ہوگی۔ جب ایک دوسرے کو لعنت کریں، شرابیں پیئیں، ریشم پہنیں، گانے باجوں کو اختیار کریں، مرد مرد کی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہو (یعنی مرد عورتوں سے شادی نہ کریں بلکہ مردوں سے حاجت پوری کریں) عورت عورت کی حاجت پوری کرنے کے لئے کافی ہو۔

(مجمع الزوائد، کتاب الفتن، باب ثانی فی امارت الساعة، جلد 7، صفحہ 640، دار الفکر، بیروت)

یہاں تک مروی ہے کہ قرب قیامت مرد، جھڑوں سے نکاح کریں گے۔ پاکستان میں جو تاریخی زلزلہ آیا تھا اس کے چند ماہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک شخص نے ایک لڑکے سے باقاعدہ نکاح کیا تھا اور اس لڑکے کے گھر والے بھی اس سے نکاح سے راضی تھے۔ معاذ اللہ عزوجل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة، ينكحون كما تنكح النساء، فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ ترجمہ: رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں مردوں کے لئے جھڑے ہوں گے وہ ان سے نکاح کریں گے جیسے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے پس جس نے نکاح کیا اور جس سے نکاح ہوا دونوں کو قتل کر دو۔ (ذم اللواط، جلد 2، صفحہ 159)

آئندہ دور میں یہ فتنہ بھی عام ہوگا کہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے نکاح جائز ہے۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائے۔

موضوع اختیار کرنے کا سبب

عصر حاضر میں میڈیا کی تیزی کے سبب بے حیائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر فلم، ڈرامے، اشتہارات میں عشق معشوقی عام ہے، موبائل کی تشہیر میں لڑکا لڑکی کی دوستی

دکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھا دیکھی نوجوان نسل کی یہی خواہش ہے کہ کوئی اس سے بھی عشق و محبت کرے اور وہ اپنی جوانی، وقت، مال اس فعل میں برباد کر دے۔

بے دین لیڈر، این۔ جی۔ اوز اور رنگین طبیعت والے لوگ بے حیائی کو پڑوان چڑھا رہے ہیں۔ پردہ اور چار دیواری کو قدیم الخیال سمجھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی جس طرح چاہو گزارنے کا ذہن دیا جا رہا ہے۔ کئی جاہل دیندار لوگوں کا حلیہ اختیار کر کے شرعی مسائل کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور بے حیائی کو شرعی طور پر جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور علمائے کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے انہیں کم علم ثابت کرتے ہیں۔

اسلامی سزاؤں پر کبھی ڈھکے چھپے اور کبھی واضح انداز میں تنقید کی جا رہی ہے۔ لڑکا لڑکی کی دوستی، عشق معشوقی اور باہمی رضامندی سے ہونے والی بدکاری کو نہ صرف جائز سمجھا جا رہا ہے بلکہ اسے جائز ثابت کیا جا رہا ہے۔

کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے جیسے مردہ عورت سے زنا، چھوٹی بچی سے زنا، زبردستی زنا، لڑکوں سے بدکاری وغیرہ تو شرعی احکام کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنی عقلیں لڑائی جاتی ہیں۔ جہاں شرعی سزا موت ہوتی ہے وہاں اعتراض کیا جاتا ہے اور جہاں شرعی سزا موت نہیں ہوتی وہاں پھانسی دینے پر زور دیا جاتا ہے۔

عورتوں کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا ذہن دیا جا رہا ہے اور بے حیائی پر مشتمل پروگرام کر کے اسے معاذ اللہ معاشرتی ترقی سمجھا جاتا ہے۔

ایسے حالات میں علمائے کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پردہ، حیا، زنا وغیرہ کے متعلق لوگوں کو شرعی احکام سے روشناس کروائیں اور زنا کے عذابات و نقصانات کو بتائیں، اس کے اسباب اور اس سے بچنے کی تدابیر بتائیں اور صاحب اقتدار لوگوں پر لازم

ہے کہ وہ اسلامی احکام کو قانونی طور پر نافذ کریں۔ اگر استطاعت کے باوجود بے حیائی وزنا کی روک تھام نہ کی گئی تو سخت قابل گرفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”والذی نفسی بیدہ لیخرجن من امتی من قبورهم فی صورة القردة والخنازیر بمداهنتهم فی المعاصی، وکفهم عن النهی وهم یستطیعون“ ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت میں سے کچھ لوگ ضرور اپنی قبروں میں سے اس حال میں اٹھائیں جائیں گے کہ ان کی صورتیں بندروں اور خنزیروں جیسی ہوں گی لوگوں کے گناہوں کے معاملہ میں مداہنت کرنے کے سبب (یعنی صاحب جلال کے رتبہ کی وجہ سے یا اس کا قرب پانے کے لئے گناہ کے گناہ ہونے کے انکار کرنا) اور استطاعت ہونے کے باوجود گناہوں سے منع نہ کرنے کے سبب۔

(کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، الفصل الثانی: فی تعدید الأخلاق المحمودة علی ترتیب الحروف المعجمة، جلد 3، صفحہ 83، مؤسسة الرسالة، بیروت)

الحمد للہ عزوجل! علمائے کرام اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور حیا، پردہ وغیرہ پر بیانات و کتب موجود ہیں۔ راقم الحروف نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس موضوع پر مختصر اور جامع طور پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ وقت کی ضرورت کے تحت میں نے زنا، لواطت، مشت زنی وغیرہ کے تمام مسائل پر کھلے اور واضح انداز میں لکھا ہے تاکہ مسلمان ان کے متعلق احکامات سے آگاہ ہوں۔ بدکاری کے اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جو مختلف ذرائع سے اکٹھے کر کے لکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی اس کتاب کو پڑھ کر اس بُرے فعل سے بچ جائے تو ہو سکتا ہے یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ الزہد والرقائق لابن المبارک میں ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن المبارک (المتوفی 181ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا ”یہدی اللہ بک رجلا واحدا، خیر لك من الدنيا وما فيها“ ترجمہ: تیری وجہ سے اللہ عزوجل ایک آدمی کو ہدایت دیدے یہ تیرے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔

(الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ عزوجل، صفحہ 484، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اپنی طرف سے تمام مسائل کو کافی غور و حوض کے ساتھ لکھا ہے، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ غلط لکھ دیا گیا ہو تو ضرور میری رہنمائی فرمادیجئے گا، ان شاء اللہ عزوجل شکر یہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے۔

المتخصص فی الفقہ الاسلامی

ابو احمد محمد انس رضا قادری

04 ربیع الاول 1435ھ 05 جنوری 2014ء

❁ باب اول: زنا کے عذابات و نقصانات ❁

فصل اول: زنا کے اخروی عذابات

زنا کے اخروی عذابات پر کثیر احادیث ہیں۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں:-

شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذم الہوی میں لکھتے ہیں ”عن الہیثم بن مالک الطائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فی رحم لا یحل له“ ترجمہ: حضرت یثیم بن مالک طائی سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ عزوجل کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں رکھے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے۔

(ذم الہوی، صفحہ 190)

زانیوں کو جہنم میں آگ کے تندور میں برہنہ ڈالا جائے گا

صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بیان فرماتے تھے کہ تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کر دیتا۔ آپ نے ایک صبح فرمایا کہ میرے پاس رات دو آنے والے فرشتے آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ چلئے میں ان دونوں کے ساتھ چلا ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے پاس پتھر لیے کھڑا تھا وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا جس سے اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا وہ پتھر مارنے والا اسکے پیچھے جاتا اس پتھر کو پکڑتا اور

پتھر لے کر ابھی واپس نہیں ہونے پاتا کہ اس لیٹے ہوئے کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا پھر پتھر مارنے والا اس کے پاس لوٹ کر آتا اور اس طرح کرتا جیسا کہ پہلے کیا تھا، میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ! یہ کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں۔ ہم چلے تو ایک آدمی کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا آدمی اس کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا لیے کھڑا تھا اور اس ٹکڑے سے اس کی بانجھ کو گدی تک اور نتھنے کو گدی تک اور ایک آنکھ کو گدی تک چیرتا تھا۔ عوف کا بیان ہے کہ ابورجاء اکثر اس طرح کہا کرتے تھے کہ وہ ایک طرف سے چیر کر دوسری طرف چیرتا تھا اور اس جانب سے چیرنے سے فارغ بھی نہ ہو پاتا کہ وہ جانب پہلے کی طرح اچھی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح کرتا جیسا کہ پہلی طرح کیا تھا میں نے کہا کہ سبحان اللہ! یہ دونوں کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں

”فأتینا علی مثل التنور قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا“ ہم چلے تو ایک تنور کے پاس پہنچے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ میں نے وہاں شور و غل کی آواز سنی ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ نظر آئیں جن کے نیچے ان کے پاس آگ کی لپٹ آتی جب ان کے پاس لپٹ آتی تو وہ زور سے چیخنے لگتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم آگے بڑھے تو ایک نہر کے پاس پہنچے، میں نے خیال کیا کہ اس کا رنگ خون کی طرح سرخ تھا اور نہر میں ایک آدمی کو دیکھا جو تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے جب وہ تیرنے والا تیر کر اس کے پاس آتا تو اس کے سامنے اپنا منہ کھول دیتا تو وہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا

پھر وہ تیرنے لگتا اور اس کے پاس لوٹ کر آتا اور جب بھی لوٹ کر آتا تو منہ کھول دیتا اور وہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیں آگے چلیں ہم آگے بڑھے تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو کہ نہایت کریمہ المنظر تھا جیسے کہ تم بہت ہی بد صورت آدمی کو دیکھو اور اس کے پاس آگ تھی وہ اس کو جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلے آگے چلے، ہم بڑھے تو ایک باغ میں پہنچے جہاں فصل ربیع کے ہر قسم کے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے درمیان ایک شخص تھا جس کا قد اتنا طویل تھا کہ اس کے سر کی لمبائی کے سبب میں انہیں دیکھ نہیں سکا اور ان کے چاروں طرف بہت سے لڑکے نظر آئے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلے ہم آگے بڑھے تو ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھے ہم چڑھے تو ایک شہر نظر آیا جس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی تھی ہم اس شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور کھولنے کے لیے کہا تو دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا ہم اندر گئے تو وہاں ہمیں کچھ لوگ نظر آئے جن کے نصف بدن تو بہت ہی خوبصورت تھے جیسا کہ تم کسی آدمی کو خوبصورت دیکھتے ہو اور نصف بہت ہی بد صورت تھے جیسا کہ تم کسی کو بد صورت دیکھتے ہو ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس نہر میں گر جاؤ ایک نہر عرض میں بہ رہی تھی اس کا پانی خالص سفید تھا چنانچہ وہ لوگ گئے اور اس میں گر پڑے پھر وہ لوگ ہمارے پاس آئے تو ان کی بد صورتی جاتی رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت ہو گئے تھے ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو یہ بالکل سفید ابر کی

طرح ایک محل تھا، ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں ان دونوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں مگر آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ رات بھر میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں تو کیا چیزیں تھیں جو میں نے دیکھی ہیں ان دونوں نے کہا کہ ابھی بیان کئے دیتے ہیں پہلا آدمی وہ جس کے پاس آپ آئے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو قرآن یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے بے پرواہی کرتا ہے اور وہ شخص جس کا نتھنا اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر انوار میں پھیلاتا تھا جو ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں

”وأما الرجال والنساء العرلة الذين فى مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزوانى“ اور برہنہ مرد اور عورتیں جو تنور میں دیکھیں تھیں تو وہ زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں تھیں اور وہ شخص جو منہ میں تیر رہا تھا اور آپ اس پر سے گزرے تھے اور وہ پتھر کا لقمہ بنا رہا تھا وہ سود کھانے والا اور وہ بد صورت آدمی جو آپ کو آگ کے پاس نظر آیا اور جو آگ بھڑکا کر اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے اور وہ دراز قد آدمی جو باغ میں آپ کو نظر آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف آپ نے دیکھے وہی بچے تھے جو فطرت اسلام پر مرے۔ راوی کا بیان ہے کہ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اور مشرکین کے بچے (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے جو بچے تھے ان میں فقط مسلمانوں کے بچے تھے یا مشرکین کے بچے جو ناسمجھی کی عمر میں فوت ہو گئے تھے وہ بھی تھے؟) تو رسول اللہ نے فرمایا اور مشرکین کے بچے (یعنی آخرت کے حکم میں یہ مشرکین کے ناسمجھ بچے مسلمانوں کے بچوں کی طرح جنتی ہیں۔ امام

قسطلانی اور دیگر بعض علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مشرکین کے بچے جنتی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ مشرکین کے بچے جنت کے خدام ہوں گے، الغرض اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توقف فرمایا ہے۔ (وہ لوگ جن کا نصف حصہ بہت خوبصورت اور نصف بہت بد صورت تھا وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے کام کیے۔ (یعنی اچھے بھی اور برے بھی) اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔

(صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح، جلد 9، صفحہ 44، دار طوق النجاة، مصر)

زانی کی مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن عثمان بن أبی العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطى إلا زانية بفرجها أو مشرك“ ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پندرہویں شعبان کی رات منادی اعلان کرتا ہے: ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ جو بھی (جو اس رات) مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے سوائے زانیہ اور مشرک کے۔

(شعب الایمان، کتاب الصیام، ماجاء فى ليلة النصف من شعبان، جلد 5، صفحہ 362، مکتبۃ الرشد، ریاض)

زانی کا جنت میں داخلہ ممنوع

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا ”إن الله عز و جل لما خلق الجنة جعل غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: لها قد أفلح المؤمنون تكلمى يا جنتى قالت: أنت الله لا إله إلا أنت الحى القيوم قد سعد من دخلنى قال: الله عز و جل بعزتى حلفت و بعلوى على خلقى لا يدخلك مصر على الزنا ولا مدمن خمر ولا قتات وهو النمام“ ترجمہ: اللہ عزوجل نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس کے لئے ”سبحان اللہ“، ”الحمد للہ“، ”لا الہ الا اللہ“، ”اللہ اکبر“، ”ولا حول ولا قوة الا باللہ“ (یہ تسبیحات) اس کا پودا رکھیں۔ اللہ عزوجل نے جنت کے لئے فرمایا: بیشک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ اے جنت میرے ساتھ کلام کر۔ جنت نے کہا تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ خوش بخت ہے جو مجھ میں داخل ہوا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم اور میری مخلوق سے اعلیٰ ہونے کی قسم میں تجھ میں زنا پر مصر (یعنی زنا پر اڑے رہنے والے) اور عادی شرابی اور چغخل خور کو داخل نہیں کروں گا۔

(کنز العمال، کتاب الايمان، الباب الرابع فى التسبيح، جلد 1، صفحہ 712، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ایک روایت میں ہے ”عن عمر بن الخطاب فى قوله تعالى ﴿أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾ قال: أمثالهم الذين هم مثلهم يحيى أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر أزواج فى الجنة وأزواج فى النار“ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ہانکون ظالموں اور ان کے جوڑوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: انہی ظالموں اور ان کے جوڑوں میں

سے یہ بھی ہیں: سو خود سو دُخوروں کے ساتھ جہنم میں جائے گا اور زانی زانی کے ساتھ اور شرابی شرابی کی ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جوڑے جنت میں ہیں اور جوڑے جہنم میں ہیں۔ (کنز العمال، کتاب التفسیر، سورة الصافات، جلد 2، صفحہ 595، مؤسسة الرسالة، بیروت)

زانیوں کے چہرے آگ سے بھڑک رہے ہوں گے

مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن الزناة يأتون تشتعل وجوههم نارا“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زانی اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہرے آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الحدود، باب ذم الزنا، جلد 6، صفحہ 388، دار الفکر، بیروت)

زانی پر جہنم کے بچھو مسلط کئے جائیں گے

الکلباء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفى 748ھ) نقل کرتے ہیں ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى فرج لا يحل له وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فى جهنم واد فيه حيات كل حية ثخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة فيغلى سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه وإن فى جهنم واديا اسمه جب الحزن فيه حيات وعقارب كل عقرب بقدر البغل لها سبعون شوكة فى كل شوكة راوية سم ثم تضرب الزانى وتفرغ سمها فى جسمه يجرد مرارة وجعها ألف سنة ثم يتهرى لحمه ويسيل من فرجه القيح والصيد“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سوائے اس کے اور نہیں کہ آدمی

ایسی جگہ اپنا نطفہ رکھے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے جس میں سانپ ہیں، ہر سانپ کی موٹائی اونٹ کی گردن برابر ہے۔ وہ سانپ نمازنہ پڑھنے والے کو ڈسے گا، جس کے زہر کا اثر ستر سال اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا جسم پک جائے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ”جُبُّ الخُرْنِ“ ہے، اس میں سانپ اور بچھو ہیں، ہر بچھو خچر جتنا ہے جس کے ستر ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں زہر ہے، یہ زانی کو ڈسے گا اور زانی کے جسم سے اس کا زہر نہجے گا، زانی اس درد کی تلخی ایک ہزار سال تک پائے گا، پھر اس کا جسم پک جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور کچ لہو بہے گا۔

(الکبائر، صفحہ 53، دار الندوة الجديدة، بیروت)

زانی کی قبر میں تین ہزار آگ کے دروازے کھلنا

نزہۃ المجالس و منتخب النفاثس میں عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری (المتوفی 894ھ) لکھتے ہیں ”قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زنى بامرأة مسلمة حرة أو أمة فتح الله عليه فى قبره ثلاثمائة ألف باب من النار يخرج عليه منها حيات وعقارب وشهب من النار فهو يعذب إلى يوم القيامة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان آزاد عورت یا لونڈی سے زنا کیا اللہ عزوجل اس کی قبر میں تین ہزار آگ کے دروازے کھول دے گا۔ اس آگ میں سے سانپ اور بچھو اور انکارے نکلیں گے اور انہیں قیامت تک عذاب دیں گے۔

(نزہۃ المجالس و منتخب النفاثس، جلد 1، صفحہ 102، المطبعة الكاسطلية، مصر)

یاد رہے کہ کافرہ عورت یا لونڈی سے بھی زنا حرام ہے۔

زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو

التخريف من النار والتعريف بحال دار البوار میں زین الدین عبدالرحمن دمشقی الحسنبی (المتوفی 795ھ) لکھتے ہیں ”عن ابن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ريح فروج أهل الزنا ليؤذى أهل النار“ ترجمہ: حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو اہل نار کو اذیت دے گی۔

(التخريف من النار والتعريف بحال دار البوار، صفحہ 192، مكتبة المؤيد، دمشق)

مسند البزار میں ہے ”إن فروج الزناة لتؤذى أهل النار بنتن ريحها“ ترجمہ: زانیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی بدبو سے جہنمی ایزا پائیں گے۔

(مسند البزار، مسند بريدة، جلد 10، صفحہ 310، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عن مكحول قال يروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه فيقول هذه رائحة أفواه الصوام ويروح أهل النار رائحة فيقولون ربنا ما وجدنا منذ دخلنا النار أنتن من هذه فيقول هذه ريح فروج الزناة“ ترجمہ: حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اہل جنت کو ایک خوشبو آئے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب جب سے ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں ایک بہت اچھی خوشبو پاتے ہیں۔ اللہ عزوجل فرمائے گا یہ خوشبو روزے داروں کے منہ کی ہے۔ اور اہل نار ایک بدبو پائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب جب سے ہم دوزخ میں داخل ہوئے ہیں اس بدبو سے زیادہ اور کوئی بدبو نہیں پاتے تو اللہ عزوجل فرمائے گا کہ یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے۔

(ذم الهوى، صفحہ 191)

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں ”عن غزوان بن جریر عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفواحش فقال لهم هل تدرون أي الزنى أعظم قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنى عند الله هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته ثم قال عند ذلك إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم فيقولون لا ندرى والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ فيقال ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه“ ترجمہ: غزوان بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے حضور فحاشیوں کا ذکر کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! ہر زنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا زنا اللہ عزوجل کے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان کی بیوی سے زنا کرے اور زانی ہو جائے اور مسلمان کی بیوی کو اسکے شوہر سے دور کرے۔ پھر فرمایا بے شک قیامت والے دن لوگوں پر ایک بد بو بھیجی جائے گا یہاں تک کہ اس بد بو سے ہر اچھے اور برے لوگ اذیت پائیں گے اور ہر تمام امتیں اس بد بو کی تکلیف کے سبب اپنے سانس روک لیں گی۔ منادی انہیں پکاریں گے اور یہ ان کی آوازوں کو سنیں گے اور ان سے کہیں گے کیا تم جانتے ہو کہ یہ بد بو کس چیز کی ہے جس سے تم کو اذیت دی گئی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اللہ عزوجل کی قسم ہم نہیں

جانتے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ بد بو زانیوں کی شرمگاہوں کی ہے کہ جو اللہ عزوجل سے اس حال میں ملے کہ زانی تھے اور انہوں نے زنا سے توبہ نہیں کی تھی۔

(روضۃ المحبین ونزہۃ المشتاقین، صفحہ 356، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

زانیوں پر اللہ عزوجل کا غضب

الکبائر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 748ھ) نقل کرتے ہیں ”وورد أيضا أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن قبلها قرضت شفتاه في النار فإن زنى بها نطقت فخذته وشهدت عليه يوم القيامة وقالت أنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول ما فعلت فيشهد عليه لسانه فيقول أنا بما لا يحل نطقت وتقول يدها أنا للحرام تناولت وتقول عيناه أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه أنا لما لا يحل مشيت ويقول فرجه أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت ويقول الآخر وأنا كتبت ويقول الله تعالى وأنا اطلعت وستررت ثم يقول الله تعالى يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على قل حياؤه منى وتصديق ذلك في كتاب الله عزوجل ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾“ ترجمہ: اسی طرح وارد ہے کہ جس نے ایسی عورت کو شہوت سے چھوا جو اس کے لئے حلال نہیں تو وہ شخص قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو کر اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، اگر اجنبیہ عورت کا بوسہ لیا ہوگا تو اس کے ہونٹ آگ میں قینچی سے کاٹے جائیں گے۔ اگر اس سے زنا کیا ہوگا تو ان قیامت والے دن گواہی دے گی کہ میں حرام پر سوار

ہوئی، تو اللہ عزوجل زانی کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھے گا کہ زانی کے چہرے کا گوشت گر جائے گا، زانی انکار کرے گا اور کہے گا میں نے ایسا نہیں کیا، تو اس پر اس کی زبان گواہی دے گی اور کہے گی میں مجھ سے وہ بولا گیا جو حلال نہیں تھا اور ہاتھ بولیں گے ہم سے وہ کھایا جو حرام تھا، آنکھیں کہیں گی ہم سے وہ دیکھا گیا جو حرام تھا، پاؤں کہیں گے کہ ہم اس طرف بڑھے جس طرف بڑھنا حلال نہیں تھا اور شرمگاہ کہے گی مجھ سے (حرام) کام لیا گیا۔ محافظ فرشتے کہیں گے میں نے یہ (گناہ) سنا اور دوسرا فرشتہ کہے گا میں نے لکھا۔ اللہ عزوجل فرمائے گا میں اس پر مطلع تھا اور میں نے اس کی پردہ پوشی کی۔ پھر اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتو! اسے میرے عذاب میں پکڑو اور اسے اس کا مزہ چکھاؤ، تحقیق کہ میرا غضب ہر اس پر شدید ہوا جو مجھ سے نہیں ڈرا۔ اس کی تصدیق قرآن پاک میں ہے: جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔

(الکبائر، صفحہ 54، دار الندوة الجديدة، بیروت)

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن أبي هريرة و ابن عباس قالاً خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته و من قدر على امرأة أو جارية حراماً فواقعها حرم الله عليه الجنة وأدخله النار و من أبصر امرأة نظرة حراماً مألأ الله عينيه ناراً ثم أمر به إلى النار و من صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً يده إلى عنقه ثم يؤمر به إلى النار و من فاكهها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام و أرى امرأة طاعت الرجل حراماً فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاكهها أو واقعها فعليها من الوزر مثل ما على الرجل“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خطبے میں فرمایا: جو کسی عورت یا لونڈی پر حرام طریقے سے قادر ہو اور اس سے زنا کرے۔ اللہ عزوجل اس پر جنت کو حرام فرمائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ جو کسی عورت کو حرام نظر (یعنی شہوت کی نظر سے) دیکھے گا، اللہ عزوجل اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا پھر اس شخص کو آگ کی طرف لیجانے کا حکم دے گا۔ جو کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرے گا، قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا وہ ہاتھ فاج زدہ ہو کر اس کی گردن پر لٹکا ہوگا پھر اسے آگ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ جو کسی غیر محرم عورت سے بات کرے گا، ہر کلمہ کے بدلہ دنیا کہ ہزار سال برابر قید کیا جائے گا۔ جو عورت مرد کے ساتھ حرام فعل میں شریک ہو اسے پکڑے یا اس کا بوسہ لے یا مباشرت کرے یا اس باتیں کرے یا اس سے بد فعلی کرے تو اس عورت پر بھی مرد کی مثل گناہ ہے۔

(ذم المہوی، صفحہ 192)

ابونعیم حلیۃ الاولیاء میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”ان اعمال امتی تعرض علی فی کل یوم جمعة و اشتد غضب اللہ علی الزناة“ ترجمہ: بے شک ہر جمعہ کے دن میری امت کے اعمال مجھ پر ہوتے ہیں اور زانیوں پر خدا کا سخت غضب ہے۔

(حلیۃ الاولیاء، ترجمہ عمران القصیر، جلد 6، صفحہ 179، السعادة بجوار محافظة، مصر)

زنا کے دوران ایمان جسم سے نکل جاتا ہے

زنا کے دوران ایمان کی نورانیت زانی کے جسم سے نکل جاتی ہے کیونکہ زنا ایک لعین و خبیث و ناپاک عمل اور ایمان کی نورانیت انتہائی نفیس و شاندار چیز لہذا یہ گوارا نہ کیا گیا کہ ایک وقت میں نفیس و لعین جمع ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی

ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من زنی وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من راسه“ ترجمہ: جو زنا کرے یا شراب پیئے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کھینچ لیتا ہے جیسے آدمی اپنے سر سے کراٹا کھینچ لے۔

(المستدرک للحاکم، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 73، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

زانی کے لئے آگ کا کوڑا

مسند احمد کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ذر، قال: سمعت رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم یقول: من زنی أمة لم یرھا تنزی جلدہ اللہ یوم القیامة بسوط من نار“ ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا: جو کسی لونڈی سے زنا کرے اور کسی نے اس لونڈی کو زنا کرتے دیکھا نہیں۔ تو اللہ عزوجل قیامت والے دن اس شخص کو آگ کا کوڑا مارے گا۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، جلد 35، صفحہ 302، مؤسسة الرسالة، بیروت)

زنا پر جہنم کی زرہ

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفة القلوب میں فرماتے ہیں: ”منقول ہے کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! جو زنا کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اسے جہنم کی ایک زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے بلند و بالا پہاڑ پر ڈالا جائے تو وہ راکھ بن جائے۔“

(مکاشفة القلوب، صفحہ 181، مکتبہ اسلامیات، لاہور)

فصل دوم: زنا کے دنیاوی نقصانات

کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملے گی اگرچہ اس کے اثرات دنیا

میں بھی ملتے ہیں جیسے ضروری نہیں کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، بدزگاہی کرنے والے کی بصارت زائل ہو جائے گی وغیرہ۔ لیکن زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں جن پر احادیث وارد ہیں۔ چند نقصانات پیش خدمت ہیں:-

☆ زنا ہر قسم کے شر کو اکٹھا کرنے کا موجب ہوتا ہے، جس میں سے قلت دین، خشیت الہی کا مفقود ہو جانا، مروت ختم ہو جانا، غیرت کا کم ہو جانا، اور عزت و شرف کا ذفن ہو جانا۔

☆ زنا حیا کا قاتل ہے، اس سے زانی کے چہرے پر بے حیائی و بے شرمی کا پردہ پڑ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے زانی مرد و عورت ایک دوسرے کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں۔

☆ زنا سے دل و چہرے کی سیاہی و ظلمت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کے چہروں سے کراہیت ہوتی ہے۔

☆ مرتکب زنا کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اور بندوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔

☆ زانی سے نیکی، پاکبازی اور عدل کا نام سلب کر لیا جاتا ہے اور فاسق، قاصر، زانی اور خائن کا نام دے دیا جاتا ہے۔

☆ زانی کے دل میں اللہ تعالیٰ وحشت ڈال دیتا ہے اور وہ وحشت کی ایسی مثال بن جاتا ہے کہ وہ اس کے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ اس کے برعکس پاکدامن کے چہرے پر حلاوت اور دل میں انس ہوتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور زانی ان سب کے برعکس ہوتا ہے۔

☆ زانی کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کوئی بھی شخص اس کی اور اس کی اولاد کی عزت و حرمت کی گارنٹی نہیں دیتا۔

☆ زنا کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ زانی کے جسم سے گندی قسم کی بو آتی ہے۔ جسے ہر قلب سلیم کا حامل سونگھ لیتا ہے۔

☆ دل کی تنگی و پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، محبوبہ کی ناراضگی کا ڈر، پکڑے جانے کا ڈر اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔

☆ زانی یا تو کم عقل ہوتا ہے یا بے غیرت ہوتا ہے۔ کم عقل یوں ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو میری کرتوت کا کچھ پتہ نہیں ہے جبکہ سارا محلہ اس کے گندے فعل پر باخبر ہوتا ہے۔ بے غیرت یوں ہوتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کون اس کے بارے میں کیا سوچے گا، اسے فقط اپنی شہوت نکالنے کی دھن ہوتی ہے۔

☆ زنا انسان کو قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، حرام کمائی، مخلوق پر ظلم اور اہل و عیال کو ضائع کرنے پر جری و بہادر بنا دیتا ہے۔ کبھی حرام طریقے سے خون بہانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کبھی علم یا بغیر علم جادو اور شرک کی طرف جانے میں اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اور یہ نافرمانی گناہوں کی کئی اقسام کو پہلے یا بعد میں لائے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے اور بعد میں کئی گناہوں کو جنم دیتی ہے، یہی برائی پہلے اور بعد میں گناہوں کے لشکر لے کر آتی ہے۔ اور یہی برائی دنیا و آخرت کے شر کو لاتی ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی سے روکتی ہے۔

☆ زنا سے لڑکی کی عزت جاتی رہتی ہے اور عیب کی چادر اسے لپیٹ لیتی ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ یہ ذلت اسکے خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور جب یہ بے شرمی اس کے اہل، خاوند، اور رشتہ داروں پر داخل ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے ان کے

سروں کو جھکا کر رکھ دیتی ہے۔

☆ زنا کے الزام کا عیب کفر کے الزام کے عیب سے زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے، کیونکہ کفر کا الزام سچا ہونے پر اگر وہ سچی توبہ کرے تو اس توبہ سے کفر کی گندگی شرعی طور پر دور ہو جاتی ہے، اس کا عیب صاف ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں رہتی، تو وہ ایسے لوگوں کی مانند ہو جاتا ہے جیسے وہ اسلام پر (یعنی مسلمان کے گھر) ہی پیدا ہوا ہے۔ جبکہ زنا کی صورت حال اس کے الٹ ہے کہ وہ اس برائی کے ارتکاب سے توبہ کرے، یا اگر اسے پاک کر دیا جائے اور قیامت کے دن کا مواخذہ مؤخر کر دیا جائے تو بھی لوگوں کے دلوں میں اس کا اثر باقی رہتا ہے، ان لوگوں کے مقابلہ میں اس کی عزت و توقیر میں کمی آ جاتی ہے جو شروع سے ہی عفت و پاکدامنی میں پلے بڑھے ہوں۔ آپ ذرا اس عورت کو دیکھئے کہ جس کی زنا کی طرف نسبت ہو لوگ اس کی توبہ ظاہر ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، جبکہ مشرکہ عورت سے نکاح میں رغبت رکھتے ہیں جب وہ اسلام لے آئے، تو اس کے اسلام لانے کی وجہ سے وہ اس سے نکاح میں راغب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی زانیہ ہو چنانچہ تفسیر طبری، تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سفیان ثوری اور تفسیر عبدالرزاق میں ہے ”عن ابن عباس قال ما بغت امرأة نبي قط“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کسی بھی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔

(تفسیر عبد الرزاق، جلد 2، صفحہ 195، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

☆ زنا دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور زانی مرد و عورت کے خاندانوں میں انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی کی غیرت کو روندنا جاتا ہے تو اس کا دل جوش غیرت سے

بھر جاتا ہے پھر یہ قتل و عارت اور لڑائیوں کے پھوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ عورت کی ہتک عزت کا عیب اور رسوائی خاوند اور رشتہ داروں کو اس طرف کھینچتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ خبر ملے کہ اس کی عورت یا کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا گیا ہے یہ سننا آسان ہے اس خبر سے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو اسے قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو فرمایا کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم! میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے۔ اور اسی غیرت کی بنا پر اللہ عزوجل نے طاہری و باطنی برائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔

☆ زانی قتل ہو کر بھی لوگوں کی لعن طعن کا شکار ہوتا ہے کہ ہر کوئی قاتل کو غیرت والا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسے بے غیرت سمجھتا ہے۔

☆ اگر زنا سے قتل و عارت نہ ہو پھر بھی زنا کا حمل ساقط کروانا عام ہے اور چار ماہ کے بعد چونکہ بچے میں جان پڑ جاتی ہے اس وقت بچہ ضائع کرنا گویا قتل کرنا ہے۔

☆ زنا سے صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن کا علاج اور کٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ کبھی تو زانی کو زندگی میں ایڈز، سیلان، زہری اور اس جیسی دوسری جنسی بیماریوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔

☆ زنا امت کی تباہی کا سبب ہے۔ اپنی مخلوق کے متعلق اللہ عزوجل کی یہ جاری شدہ سنت ہے کہ زنا کے عام ہونے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا غضب شدید ہو جاتا ہے، اس غضب کے بدلے زمین پر اس کا عذاب لازمی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن آسمانی اور زمینی آفات آتی ہیں۔

☆ زنا کے بہت بڑا معاملہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام سزاؤں میں سب سے زیادہ عبرتناک سزا زنا کی رکھی ہے جو سرعام ہوتی ہے۔ مزید زنا کی دنیاوی نحوست پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ ہوں:-

زنا تنگ دستی لاتا ہے

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا يورث الفقر“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زنا فقر لاتا ہے۔

(شعب الایمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 296، مکتبۃ الرشید، ریاض)

حدیث قدسی ہے ”عن عبد الله بن عمر قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أنا قاتل القتالين ومفقر الزناة“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں قاتلوں کو ختم کرنے والا اور زانیوں کو فقردینے والا ہوں۔

(ذم الہوی، صفحہ 192)

اس کی تصدیق کئی مرتبہ دیکھی سنی گئی ہے کہ زنا کی نحوست سے زانی کا آہستہ آہستہ ذریعہ معاش تباہ ہو جاتا ہے اور وہ فقیر بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی معشوقہ کے پیچھے لگا رہتا ہے، اپنے نوکری و کاروبار پر توجہ نہیں دیتا اور جو کچھ کمایا ہوتا ہے وہ عشق معشوقی میں خرچ کر دیتا ہے۔

زنا کے تین دنیاوی و اخروی نقصانات

حلیۃ الاولیاء میں ہے ”عن حذیفة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا کم والزنا؛ فإن فیہ ست خصال، ثلاثا فی الدنیا، وثلاثا فی الآخرة، فأما اللواتی فی الدنیا: فیانہ یذهب بالبہاء، ویورث الفقر، وینقص الرزق، وأما اللواتی فی الآخرة: فیانہ یورث سخط الرب، وسوء الحساب، والخلود فی النار“ ترجمہ: حضرت حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زنا سے بچو! بے شک اس کے چھ نقصانات ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ جو دنیا میں ہوں گے وہ یہ ہے کہ زنا زانی کی خوبصورتی لے جاتا ہے، فقیری لاحق ہو جاتی ہے اور رزق کم ہو جاتا ہے۔ جو آخرت میں نقصان ہوں گے وہ یہ ہیں کہ رب تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، برحساب ہوگا اور جہنم میں رہے گا۔

(حلیۃ الأولیاء و طبقات الأصفیاء، شقیق بن سلمة فمنہم الوالہ الذابل، المجتہد الناحل، شقیق بن سلمة، أبو وائل، جلد 4، صفحہ 111، السعادة بجوار محافظة، مصر)

زنا تمام برائیوں کا مجموعہ ہے

غذاء الألباب فی شرح منظومة الآداب میں شمس الدین ابوالعون محمد بن احمد بن سالم السفارینی الحسنبلی (المتوفی 1188ھ) لکھتے ہیں ”الزنا یجمع خلال الشر کلھا من قلة الدین و ذهاب الورع، و فساد المروءة و قلة الغیرة، فلا تجد زانیا معہ ورع، ولا وفاء بعہد، ولا صدق فی حدیث، ولا محافظة علی صدیق، ولا غیرة تامة علی أهلہ، فالغدر و الکذب و الخیانة و قلة الحیاء و عدم المراقبة و عدم الأنفة للحرم و ذهاب الغیرة من القلب من شعبہ و موجباتہ، و من موجباتہ غضب الرب۔۔ و منها سواد الوجه و ظلمتہ و ما یعلوہ من الکآبة و المقت الذی یدو علیہ للنظرین۔ و منها ظلمة القلب، و طمس نورہ، و هو الذی أوجب

طمس نور الوجه، و غشیان الظلمة لہ، و منها الفقر اللازم، و فی أثر یقول اللہ تعالیٰ: إن اللہ مهلك الطغاة، و مفقر الزناة۔ و منها أنه یذهب حرمة فاعلہ و یسقط من عین ربہ و من أعین عبادہ المؤمنین۔ و منها أنه یسلبہ أحسن الأسماء، و هو اسم العفة و البر و العدالة، و یعطیہ أصدادها کاسم الفاجر و الفاسق و الزانی و الخائن۔ و منها أنه یسلبہ اسم الإیمان کما مر، فیسلب اسم الإیمان المطلق دون مطلق الإیمان“ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا تمام برائیوں کا مجموعہ ہے جیسے دین کی کمی، تقویٰ کا چلے جانا، مروت کا فساد اور غیرت کی کمی۔ زانی میں تقویٰ نہیں پایا جائے گا، اس کے وعدے میں وفا نہیں ہوگی، اس کی بات میں سچائی نہیں ہوگی، سچائی پر قائم نہیں رہے گا، اپنے اہل و عیال کے حق میں مکمل غیرت نہیں کرے گا (یعنی بیوی، بہن، بیٹی کے بے پردہ ہونے وغیرہ پر غیرت نہیں کرے گا۔) زانی میں دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، خیانت ہوگی، حیاء کی کمی ہوگی، زانی کے دل سے غیرت چلی جاتی ہے، زنا رب تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے، زانی کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زانی کو فقر و فاقہ لاحق ہوتا ہے، زانی کی عزت اللہ عزوجل اور لوگوں کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے، زانی کے اچھے نام ختم ہو کر بُرے نام پڑ جاتے ہیں، زانی کا ایمان کامل سلب ہو جاتا ہے۔

(غذاء الألباب فی شرح منظومة الآداب، جلد 2، صفحہ 441، مؤسسة قرطبة، مصر)

کثرتِ زنا کثرتِ اموات کا باعث ہے

زنا کے کچھ نقصانات ایسے ہیں جس کا اثر زانی کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا وبال پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ جب زنا کی کثرت

ہو جائے تو پورے معاشرے پر آزمائش آتی ہے چنانچہ الکباثر میں ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”قال صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت وما بخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله القطر“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں سود عام ہو جائے اس میں جنون عام ہو جاتا ہے اور جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں اموات عام ہو جاتی ہیں جو قوم تول میں کمی کرتی ہے اللہ عزوجل اس پر بارش کو بند کر دیتا ہے۔

(الکباثر، صفحہ 63، دار الندوة الجديدة، بیروت)

ذم الہوی میں جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفی 597ھ) فرماتے ہیں ”عن عطاء الخراسانی قال إذا ظهر الزنا كثر الموت وإذا أكل الربا كان الخسف والزلزلة وإذا جار الحكام قحط المطر وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية“ ترجمہ: حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب زنا عام ہو جائے تو اموات کی کثرت ہو جاتی ہے اور جب سود کھانا عام ہو جائے تو زمین میں دھنسا اور زلزلوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جب حکام ظلم کریں تو بارش کا قحط ہو جاتا ہے اور جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔

(ذم الہوی، صفحہ 194)

فحاشی کا عام ہونا طاعون جیسی بیماریوں کا موجب ہے

زنا و بے حیائی عام ہونے پر ایڈز کے ساتھ دیگر کئی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن عمر، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا

فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخبروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین پانچ چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ اول یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط مصائب اور بادشاہوں (حکمرانوں) کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برے اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھر وہ انکے اموال چھین لیتے ہیں اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں (مرضی کے کچھ احکام) اختیار کر لیتے ہیں (اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور) باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، جلد 2، صفحہ 1332، دار احیاء الکتب العربیہ، الحلبي)

زنا کی نحوست سے پورا لشکر تتر بتر ہونا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبّارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزل فرمایا تو بلعم باعورا کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے وہ یہاں آئے ہیں ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے اور قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے، تیرے پاس اسمِ اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹادے۔ بلعم باعورا نے کہا تمہارا ربُّ اہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایمان دار لوگ ہیں، میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی اور بہت الحاح و زاری کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا تو بلعم باعورا نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا، اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرمادی۔ تب قوم نے اس کو ہدیئے اور نذرانے دیئے جو اس نے قبول کئے اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا تو پھر دوسری مرتبہ بلعم باعورا نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی اس کا کچھ جواب نہ ملا، اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہ ملا قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی منع فرماتا اور قوم

کا الحاح و اصرار اور بھی زیادہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال دیا اور آخر کار وہ بددعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھا تو جو بددعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا اور اپنی قوم کے لئے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا اے بلعم یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لئے دعا کرتا ہے ہمارے لئے بددعا، کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ عزوجل قرآن پاک میں کچھ اس طرح کیا ہے ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال گتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔

(سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 175، 176)

جب بلعم بن باعورا مردو ہو گیا تو اس نے قوم کو یہ مشورہ دیا کہ اپنی عورتوں کا بھناؤ سنگار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو اگر بنی اسرائیل نے ان سے زنا کر لیا تو

ہلاک ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان عورتوں سے زنا کیا تو اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لشکر پر طاعون بیماری کو بھیج دیا جس کے سبب ایک دن میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار شخص فوت ہو گئے اور پورا لشکر تتر بتر ہو گیا۔

(ماخوذ از، خزائن العرفان، تفسیر ابن عطیہ، نزہۃ المجالس ومنتخب النفاہات وغیرہ)

زنا سے ہونے والی حرامی اولاد باعثِ فتنہ ہے

زنا سے ہونے والی حرامی اولاد معاشرے کے لئے فتنہ ہوتی ہے کہ ان میں حرام کے جرائم ہوتے ہیں جو معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے لوگوں پر ظلم کرنے والے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ”لا یبغی علی الناس إلا ولد بغی أو فیہ عرق منہ“ ترجمہ: لوگوں پر ظلم نہ کرے مگر زنا کی اولاد اور وہ جس میں اس کی کوئی رگ ہو۔

(شعب الإيمان، تحريم اعراض الناس، جلد 9، صفحہ 53، مکتبۃ الرشید، الریاض)

اہل بیت کا ادب نہ کرنے والوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ”من لم یعرف حق عترتی، والأَنْصار، والعرب فهو لأحد ثلاث: إما منافقا، وإما لزنیة، وإما لغير أی حملته أمه علی غیر طهور“ ترجمہ: جو میری اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ تین میں سے ایک ہے۔ منافق ہے یا زانیہ کا بچہ یا ایسا شخص جسے اس کی ماں نے بحالت حیض حمل میں لیا۔

(شعب الإيمان، فصل فی الصلوٰۃ علی النبی، جلد 3، صفحہ 162، مکتبۃ الرشید، الریاض)

جب اہل بیت کا بے ادب حرامی ہو سکتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کا گستاخ بدرجہ اولیٰ حرامی ہو سکتا ہے۔

کئی مسلمان کہلانے والی ایکٹرس، ماڈلز، سیاسی لیڈر بے حیائی کو کوئی عیب نہیں سمجھتیں بلکہ ایک ایکٹرس کے بارے میں مشہور ہوا کہ اس نے کہا ہے کہ مرد عورت کا بوسہ

لے تو اسمیں کیا حرج ہے۔ انہی ذہنیت کے لوگوں کے متعلق یحییٰ بن خالد نے فرمایا ”اذارایت الرجل بذی اللسان وقاحا دل علی انه مدخول فی نسبہ“ ترجمہ: جب تو کسی کو دیکھے کہ فحش بکنے والا بے حیاء ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔

(التیسیر شرح الجامع الصغیر، حرف الباء، جلد 1، صفحہ 438، مکتبۃ الامام الشافعی، الریاض)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”حدیث صحیح میں اولاد زنا (یعنی حرامی) کی نسبت اس قدر وارد ہے کہ ”ولد الزنا شر الثلثۃ رواہ الامام محمد وابوداؤد والحاکم والبیہقی فی السنن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند حسن“ حرام کا بچہ اپنے ماں باپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس کو امام محمد، ابوداؤد، حاکم اور بیہقی نے سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بھی وہی حرکات اختیار کرے، خود دوسری حدیث میں اس مطلب کی تصریح ارشاد ہوئی کہ ”ولد الزنا شر الثلثۃ اذا عمل بعمل ابویہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن“ حرامی اپنے ماں باپ سے بھی بدتر ہے جبکہ ان کی طرح وہی کام کرے۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند حسن روایت کیا ہے۔ یا یہ معنی کہ یہ عادتوں خصلتوں میں غالباً ان سے بھی بدتر ہوتا ہے جبکہ علم و عمل اس کی اصلاح نہ کریں کہ برے تخم سے بری ہی کھیتی پیدا ہوتی ہے ”شمشیر نیک زاہن بدچوں کند کسے“ ناقص لوہے سے اچھی تلوار کوئی کیسے بنائے۔

اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ ”فرخ الزنا لا یدخل الجنة رواہ ابن عدی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند ضعیف“ زنا کا چوزہ جنت میں نہ

جائے گا۔ اس کو ابن عدی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

یعنی غالباً اس سے وہ افعال صادر ہوں گے جو سابقین کے ساتھ دخول جنت سے روکیں گے، بالجملة یہ مطلب کسی طرح نہیں کہ ان کے گناہ کا عذاب اس پر ہو یا بے گناہ و عید کا مستحق ہو، مگر اس امر نکاح میں شرع مطہر نے کفایت کا بھی لحاظ فرمایا ہے دختروں کے لئے مطلقاً بالغہ ہوں خواہ نابالغہ اور پسروں کے لئے جبکہ نابالغ ہوں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 723، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فصل سوم: مراہب زنا

ویسے تو زنا کے متعلق شدید وعید آئی ہیں لیکن اس کے درجات بھی ہیں کہ بعض سے زنا کرنا زیادہ سخت گناہ ہے۔

کنوارے اور شادی شدہ کا زنا کرنا

کنوارے کی بنسبت شادی شدہ کا زنا کرنا زیادہ گناہ ہے۔ الزواج عن اقتراف الکبار میں احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیتمی (المتوفی 974ھ) میں لکھتے ہیں ”أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا إن كان بغير علمه فإن علم وسكت حرم الله عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة أنت حرام على الديوث وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار“ ترجمہ: بے شک جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو اس عورت اور زانی پر اس امت کے عذاب میں سے نصف عذاب قبر ہوگا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس عورت

کے شوہر کو اللہ عزوجل حکم دے گا کہ اس کی بیوی سے زنا کر نیوالے کی نیکیاں لے لے۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا کہ اس کی بیوی سے زنا اس کی لاعلمی میں ہو۔ اگر شوہر کو پتہ تھا پھر بھی خاموش رہا تو ایسے شخص پر اللہ عزوجل نے جنت کو حرام فرمایا۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ جنت دیوث پر حرام ہے۔ دیوث وہ ہے کہ جسے اپنے اہل کی فحاشی کو پتہ ہو پھر بھی وہ اس پر خاموش رہے اور اسے غیرت نہ آئے۔

(الزواج عن اقتراف الکبائر، جلد 2، صفحہ 222، دار الفکر، بیروت)

پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا

پڑوسی کی بیوی سے زنا اجنبی عورت سے زیادہ سخت ہے۔ مسلم شریف شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عمرو بن شریبیل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أی الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أی قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أی قال أن تزانی حلیلة جارك“ ترجمہ: حضرت عمرو بن شریبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کونسا گناہ بڑا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس نے عرض کیا پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ عرض کیا پھر کونسا گناہ بڑا ہے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔

(صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب کون الشرك أقیح الذنوب وبيان أعظمها بعده، جلد 1، صفحہ 90، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مسند احمد کی حدیث پاک حضرت مقداد بن اسود سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا ”ما تقولون فی الزنا؟ قالوا: حرمه

اللہ ورسولہ، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره، قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: أن يسرق الرجل من عشرة آيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره“ ترجمہ: تم زنا کے متعلق کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی زنا کو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے اور یہ قیامت تک حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا: آدمی کا دس عورتوں سے زنا کرنا اس سے آسان ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم چوری کے متعلق کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: آدمی کا دس گھروں میں چوری کرنا اس سے آسان ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، بقية حديث المقداد بن الأسود، جلد 39، صفحہ 277، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس لئے زیادہ قبیح کہا گیا کہ پڑوسی سے ایسی توقع نہیں ہوتی، اس سے بندہ مطمئن ہوتا ہے اور اس سے امن کی امید ہوتی ہے۔ شریعت نے اس پر احسان واکرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح استاد یا پیر کی بیٹی سے زنا زیادہ سخت ہے۔

رشتہ دار سے زنا کرنا

اسی طرح ہر وہ رشتہ جس سے یہ توقع نہ ہو اس کا ایسا عمل زیادہ قبیح ہے کہ یہاں اعتماد کے رشتے کو ٹھیس بچانا اور کئی حقوق کی پامالی کرنا ہے۔ لہذا غیر کی نسبت اپنے گھر میں

سے کسی غیر محرم عورت جیسے چچی، ممانی، کزن وغیرہ سے زنا زیادہ گناہ ہے اور معاذ اللہ محرم عورت جیسے ساس، بہن، ماں، بیٹی سے زنا اعظم گناہ ہے۔ الکبائر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 748ھ) نقل کرتے ہیں ”وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم“ ترجمہ: اعظم زنا اپنی والدہ، بہن اور باپ کی بیوی اور دیگر محارم سے زنا کرنا ہے۔

(الکبائر، صفحہ 54، دار الندوة الجديدة، بیروت)

محرم عورت سے زنا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا چنانچہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم“ ترجمہ: جس نے محرم سے زنا کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(المصنف، کتاب الطلاق، باب الرجل یزنی بأم امرأته، وابنتها، وأختها، جلد 7، صفحہ 199، المجلس العلمي، الہند)

بوڑھے آدمی کا زنا کرنا

جوان کی بہ نسبت بوڑھے کا زنا کرنا زیادہ شدید ہے۔ مسند المز ار میں ہے ”عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه إن السماوات السبع والأرضين السبع والجبال ليلعن الشيخ الزانى“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سات آسمان اور سات زمیں اور پہاڑ بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں۔

(مسند البزار، مسند بريدة بن الحبيب رضى الله عنه، جلد 10، صفحہ 310، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)

وجہ اس کی یہ ہے کہ بوڑھے نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور کمال عقل پالی، زندگی میں کئی تجربات ہوئے، معاشرے میں ہونے والے زنا کے انجام دیکھے، شہوت

کم ہوگئی، اب آگے صرف موت ہے اس کے باوجود بجائے رب تعالیٰ سے ڈرنے اور موت کی تیاری کرنے کی بجائے زنا جیسے لعنتی کام میں مبتلا ہونا اس کے غافل ہونے پر دلیل ہے جبکہ جوان آدمی بوڑھے کی نسبت سمجھدار نہیں ہوتا اور شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

عالم کا زنا کرنا

اسی طرح جاہل کی بنسبت عالم کا ایسا کرنا زیادہ فتیح ہے۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر میں احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی (المتوفی 974ھ) لکھتے ہیں ”أن الزناله مراتب: فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأعظم منه بمحرم، وزنا الثيب أقيح من البكر بدليل اختلاف حديهما، وزنا الشيخ لكامل عقله أقيح من زنا الشاب، والحر والعالم لهما أقيح من القن والجاهل“ ترجمہ: زنا کے مراتب ہیں: اجنبیہ عورت جس کا شوہر نہیں اس سے زنا عظیم ہے اور جس کا شوہر ہے اس سے زنا زیادہ عظیم گناہ ہے اور اس سے بھی زیادہ محرم عورت سے زنا کرنا ہے۔ شادی شدہ کا زنا کنوارے سے زیادہ فتیح ہے، وجہ یہ ہے کہ دونوں کی سزاؤں میں فرق ہے (یعنی شادی شدہ زانی کی سزا زیادہ سخت ہے۔) بوڑھا کہ اس کو زیادہ عقل ہوتی ہے اس کا زنا کرنا جوان کی بنسبت زیادہ فتیح ہے اور آزاد اور عالم کا زنا کرنا غلام اور جاہل سے زیادہ فتیح ہے۔

(الزواجر عن اقتراف الکبائر، جلد 2، صفحہ 226، دار الفکر، بیروت)

مبارک گھڑی و مبارک جگہ پر بدکاری کرنا

پھر اگر یہ زنا کسی مبارک جگہ یا گھڑی میں کیا جائے تو اور زیادہ حرام ہوتا ہے جیسے مکہ، مدینہ اور رمضان شریف کے مہینے میں چنانچہ الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے ”فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام، أو بلد حرام، أو وقت معظم عند الله كأوقات

الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم“ ترجمہ: اگر زنا حرام مہینوں میں یا حرمت والے شہر میں یا ان اوقات میں کیا جائے تو اوقات اللہ عزوجل کے ہاں معظم ہیں جیسے نماز کے اوقات یا قبولیت کے اوقات تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔

(الموسوعة الفقہیہ الكويتیة، جلد 24، صفحہ 19، دار الصفاة، مصر)

فصل چہارم: لواطت (Homosexuality) کا عذاب

مرد کا مرد سے بدفعی کرنا لواطت کہلاتا ہے جسے اغلام بازی، لونڈے بازی، Gay بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث میں لواطت کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اس پر سخت وعید وارد ہیں۔

لواطت زنا سے بھی بدتر ہے

المحرراتق میں ہے ”أن اللواطه محرمة عقلا وشرعا وطبعاً بخلاف الزنا وأنه ليس بحرام طبعاً فكانت أشد حرمة منه وفي فتح القدير وهل تكون اللواطه فى الجنة أى هل يجوز كونها فيها والصحيح أنها لا تكون فيها؛ لأنه تعالى سماه خبيثة فقال تعالى ﴿كانت تعمل الخبائث﴾ والجنة منزهة عنهم املخصاً“ ترجمہ: بے شک لواطت عقلاً اور شرعاً اور طبعاً حرام ہے بخلاف زنا کے کہ زنا طبعاً حرام نہیں ہے۔ تو لواطت کی حرمت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ فتح القدير میں ہے کہ جنت میں (جو حوریں ملیں گی ان سے) لواطت جائز ہوگی؟ صحیح یہ ہے کہ جنت میں لواطت نہیں ہوگی (اگر چہ حوروں سے صحبت ہوگی۔) اللہ عزوجل نے لواطت کا نام خبیث رکھا اور فرمایا وہ بستی (یعنی قوم لوط) گندے کام کرتی تھی۔ اور جنت خباثت سے منزہ ہے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الحدود، وطء امرأة أجنبية فى دبرها، جلد 5، صفحہ 17، دار

(الكتاب الإسلامی)

جانور بھی لواطت نہیں کرتے

یہ ایسا قبیح فعل ہے کہ سوائے گدھے اور خنزیر کے جانور بھی نہیں کرتے۔ شعب الایمان کی روایت ہے ”عن عرفط العبدی قال سمعت ابن سیرین، یقول لیس شیء من الدواب یعمل عمل قوم لوط إلا الخنزیر والحمار“ ترجمہ: عرفط العبدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جانور میں کوئی بھی جانور لواطت نہیں کرتا سوائے خنزیر اور گدھے کے۔

(شعب الایمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 287، مکتبۃ الرشید، ریاض)

لواطت کرنے والے پر لعنتوں کی برسات

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ، أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لعن اللہ سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته، وردد اللعنة علی واحد منهم ثلاثا، ولعن کل واحد منهم لعنة تکفیه، فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير اللہ، ملعون من أتى شیئا من البهائم، ملعون من عق والدیه، ملعون من جمع بین المرأة و بین ابنتها، ملعون من غیر حدود الأرض، ملعون من ادعی إلى غیر موالیہ“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق میں سے سات بندوں پر لعنت فرمائی سات آسمانوں کے اوپر سے اور ان میں سے ایک پر وہ لعنت تین مرتبہ لوٹائی، حالانکہ ان میں سے ہر ایک پر اس نے ایسی لعنت کی تھی کہ وہ ایک لعنت ہی ان کو کافی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا: وہ ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، وہ ملعون ہے جو قوم لوط والا

عمل کرے، وہ ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، ملعون ہے وہ جو غیر اللہ کیلئے ذبح کرے (یعنی اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے) ملعون ہے وہ جو جانوروں سے بدکاری کرے، ملعون ہے وہ جو والدین کی نافرمانی کرے، ملعون ہے وہ جو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کو (نکاح میں) جمع کرے، ملعون ہے وہ جو زمین کی حد میں تبدیلی کرے (یعنی زمین کی حد کو زیادہ کر کے اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لے) ملعون ہے وہ جو اپنے موالی کی غیر کی طرف خود کو منسوب کرے۔

(المعجم الأوسط، باب المیم، من اسمه: معاذ، جلد 8، صفحہ 234، دار الحرمین، القاہرہ)

دوسری روایت میں ہے ”لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، ولعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، ولعن اللہ من عمل عمل قوم لوط“ ترجمہ: اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی جو قوم لوط کا عمل کرے، اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی جو قوم لوط کا عمل کرے۔

(المعجم الكبير، باب العین، عکرمة عن ابن عباس، جلد 11، صفحہ 218، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

لواطت کرنے والے پر رب تعالیٰ کا غضب

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أربعة یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ۔۔۔ قیل: من هم یا رسول اللہ؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي یأتی البهیمۃ، والذي یأتی الرجل“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار شخص ہیں جو صبح اور رات اللہ عزوجل کے غضب میں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے

عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ آدمی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، جو جانور سے وطی کرے اور وہ جو آدمی سے وطی کرے۔

(شعب الإيمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 278، مکتبۃ الرشید، ریاض)

الکباثر میں محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں ”روی أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا من غضب الله تعالى وتكاد السماوات أن تقع على الأرض فتمسك الملائكة بأطرافها وتقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يلعنهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به يعني اللواط وناكح البهيمة وناكح الأم وابتنتها وناكح يده إلا أن يتوبوا“ ترجمہ: مروی ہے کہ جب مرد آپس میں لواطت کرتے ہیں تو رحمن کا عرش رب تعالیٰ کے غضب سے کانپتا ہے، قریب ہوتا کہ وہ ان پر گر جائے۔ فرشتے عرش کو اطراف سے پکڑے رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل کا غضب تھم جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سات ایسے شخص ہیں جن پر قیامت والے دن رب تعالیٰ لعنت فرمائے گا اور ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور حکم دے گا کہ ان کو جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دو (وہ سات یہ ہیں) لواطت کرنے والا اور کروانے والا، جانور سے وطی کرنے والا، اپنی ماں اور بیٹی سے زنا کرنے والا اور مشت زنی کرنے والا۔ مگر یہ کہ وہ (مرنے سے پہلے) توبہ کر لیں۔

(الکباثر، صفحہ 50، دار الندوة الجديدة، بیروت)

شعب الإيمان کی حدیث پاک ہے ”عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، ولا يزيكهم، ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده، والفاعل والمفعول به، والمدمن بالخمر، والضارب أبويه حتى يستغنيا، والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سات شخص وہ ہیں جن کی طرف اللہ عزوجل قیامت والے دن نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ انہیں عالمین کے ساتھ جمع کرے گا اور انہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، تو جو توبہ کرے اللہ عزوجل توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (وہ سات شخص درج ذیل ہیں:) مشت زنی کرنے والا، لواطت کرنے والا اور کروانے والا، عادی شرابی، والدین کو مارنے والا یہاں تک کہ والدین استغاثہ کریں، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کریں اور اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا۔

(شعب الإيمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 329، مکتبۃ الرشید، ریاض)

لواطت کرنے والا قبر کے اندر خنزیر کی شکل میں

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قال ابن عباس رضی اللہ عنہما أن اللوطی إذا مات من غیر توبة فإنه یمسخ فی قبره خنزیرا“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر لواطت کرنے والا بغیر توبہ مر جائے تو اسے قبر میں خنزیر بنا دیا جائے گا۔

(الکباثر، صفحہ 57، دار الندوة الجديدة، بیروت)

لوٹی لواطت کی حالت میں قبر سے نکلے گا

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عن ابن عباس قال من خرج من الدنيا على حال خرج من قبره على تلك الحال حتى إن اللوطى يخرج يعلق ذكره على دبر صاحبه مفتضحين على رءوس الخلائق يوم القيامة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو جس حال میں دنیا سے جائے گا قبر سے اسی حال میں نکلے گا۔ یہاں تک کہ لوٹی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ میں داخل ہوگی اور قیامت والے دن پوری مخلوق کے سامنے رسوا ہونگے۔

(ذم الہوی، صفحہ 209)

لوٹی قیامت والے دن بندر اور خنزیر کی شکل میں

ذم الہوی میں ہے ”عن عبد الله بن عمرو قال يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة القرود والخنزير“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوٹی کا قیامت والے دن بندر اور خنزیر کی شکل میں حشر ہوگا۔

(ذم الہوی، صفحہ 209)

لواطت کرنے والے کا حشر قوم لوط کے ساتھ

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر معهم“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ قوم لوط جیسا عمل کرتا ہو تو اللہ عزوجل اس شخص کو اس قوم لوط کی طرف منتقل کر دے گا اور انہیں کہ ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

(ذم الہوی، صفحہ 208)

کنز العمال میں ہے ”من مات وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره حتى يصير معهم ويحشر يوم القيامة معهم“ ترجمہ: جو اس حال میں مرا کہ قوم لوط جیسا عمل کرتا ہو تو اس کی قبر قوم لوط کی طرف منتقل ہو جائے گی، یہاں کہ قیامت والے دن قوم لوط کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

(کنز العمال، کتاب الحدود، الإكمال من الفرع الخامس في حد اللواط وإتيان البهيمة، جلد 5، صفحہ 506، مؤسسة الرسالة، بیروت)

لوٹی جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبیا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جو انعام بازی کرے گا، وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی بو پانچ سو (500) برس کی مسافت سے آتی ہے۔“

(مکاشفة القلوب، صفحہ 181، مکتبہ اسلامیات، لاہور)

لواطت اور اس کی نجاست

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن مجاهد قال لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة من السماء، و كل قطرة في الأرض لم يزل نجسا“ ترجمہ: حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ لواطت کے بعد اگر آسمان وزمین کے پانی کے ساتھ غسل کیا جائے تب بھی اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی۔

(شعب الایمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 287، مکتبہ الرشید، ریاض)

الدینار من حدیث المشائخ الکبار میں شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (المتوفی 748ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن شماس فرماتے ہیں ”سمعت الفضیل بن عیاض یقول لو أن لوطیا اغتسل بكل قطرة من السماء لقی الله غیر

طاہر“ ترجمہ: میں نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں: اگر لوطی آسمان کے تمام قطرات سے بھی غسل کرے تب بھی وہ رب تعالیٰ سے ناپاکی کی حالت میں ملے گا۔
(الدينار من حديث المشايخ الكبار، صفحہ 48، مكتبة القرآن، القاہرہ)

زمین کا لواطت پر چلانا

زم اللواط میں ابو بکر محمد بن الحسین الآجری البغدادی (المتوفی 360ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت عباس دوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”بلغنی أن الأرض تعج من ذكر علی ذکر“ ترجمہ: مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب مرد مرد کے ساتھ بد فعلی کرتا ہے تو زمین اس پر چلاتی ہے۔
(ذم اللواط، صفحہ 33، مكتبة القرآن، القاہرہ)

لواطت کرنے والے کے فرض و نوافل قبول نہیں

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن أبي هريرة وابن عباس قالاً خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته من نكح امرأة في دبرها أو غلاماً أو رجلاً حشر يوم القيامة أنتن من الحيفة ينادى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ويحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً ويجعل في تابوت من النار ويسمر عليه بمسامير من حديد من نار“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں فرمایا: جو عورت کی دبر (پچھلے مقام) یا غلام یا آدمی کی دبر میں جماع کرے تو اس حال میں قیامت والے دن آئے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آئے گی، لوگوں میں سے پکارا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ عزوجل اس کے اعمال کو ضائع فرمادے گا اور اس کے فرض و نوافل قبول

نہیں فرمائے گا۔ اس کو آگ کے تابوت میں رکھا جائے گا اور اس پر آگ کے کیل ٹھونکے جائیں گے۔
(ذم الہوی، صفحہ 207)

لواطت کی تاریخ، عذاب اور ترہیب کے متعلق جاننے کے لئے امیر اہل سنت سیدی و مرشدی حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مختصر و جامع اور دل پر اثر کرنے والی کتاب ”قوم لوط کی تباہ کاریاں“ کا مطالعہ کریں۔

لواطت کے دنیاوی نقصانات

☆ لواطت نکاح کی رغبت کو ختم کر دیتی ہے جبکہ نکاح افزائش نسل کا سبب ہے۔
☆ لواطت کے سبب مرد عورت کے قابل نہیں رہتا کہ مرد اپنی مردانہ طاقت ختم کر بیٹھتا ہے۔

☆ لواطت کرنے والے کی بیوی اس سے متنفر ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لواطت کرنے والا بیوی سے بھی لواطت کرتا ہے تو یہ عورت کے لئے نفرت کا باعث ہوتا ہے۔

☆ لواطت منتقل ہونے والی عادت ہے کہ جس مرد سے بد فعلی کی جاتی ہے وہ آگے دوسروں سے بھی بد فعلی کرتا ہے۔

☆ لواطت اعصابی کمزوری کا باعث ہے کہ اس سے عضو خاص سمیت جسم کے کئی اعضا متاثر ہوتے ہیں۔

☆ ایک ڈاکٹر کے مطابق وہ امراض جو لواطت جنسی سے منتقل ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:- ایڈز، یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے قوت مناعت جاتی رہتی ہے جس سے عادتاً موت واقع ہو جاتی ہے۔ جگر کی بیماری، زہری کا مرض، مرض سیلان، جراثیمی

ممالک میں بھی اس کی قانونی کی اجازت نہیں کہ اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن میں ایڈز، کینسر کے ساتھ ساتھ عمر میں کمی ہونے کی بھی صراحت کی گئی ہے۔
لواطت کی تباہ کاریوں کے متعلق چند رپورٹس پیش خدمت ہیں:-

CDC رپورٹ کے مطابق امریکہ میں لواطت کرنے والوں میں 61 فیصد HIV کی بیماری ہے، جن میں زیادہ تر 13 سال سے لے کر 29 سال تک کے نوجوان ہیں۔ یہی HIV وائرس AIDS کا باعث بنتا ہے۔ CDC کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 21 بڑے شہروں میں 19% لواطت میں مبتلا لوگ HIV جیسی بیماری کا شکار ہیں اور 44% لوگ اس بیماری سے بے خبر ہیں (جبکہ وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں)۔ پوری تفصیلی رپورٹ یہ ہے:-

Disease:2% of U.S. population is gay yet it accounts for 61% of HIV infection: "Men who have sex with men [MSM] remain the group most heavily affected by new HIV infections. While the CDC estimates that MSM represent only 2 percent of the U.S. population, they accounted for the majority (61 percent; 29,300) of all new HIV infections in 2009. Young MSM (ages 13 to 29) were most severely affected, representing more than one quarter of all new HIV infections nationally (27 percent; 12,900 in

میلان کی جلن، ٹائیفائیڈ، ایسٹروائڈ، ایسٹروائڈ کا مرض، انٹریوں میں کیڑے پڑنا، خارش (چنبل)، زیناف جوؤں کا پڑنا، سائٹو مگلک وائرس جو سرطان کا باعث بنتا ہے، تناسلی امراض۔
☆ لواطت کروانے والے کو کمزور دہ کی شدید تکلیف ہو جاتی ہے جو بڑھ کر کینسر تک پہنچ جاتی ہے۔

☆ لوطی کی عقل دیگر معاملات میں مفلوج ہو جاتی ہے کہ وہ ساری عقل مفلوج کو قابو کرنے پر ہی لڑاتا ہے۔

☆ لواطت کا نشہ بڑھاپے میں بھی ختم نہیں ہوتا کہ بوڑھا شخص بھی اپنی شہوت کو بہانے سے گلے کر لیا یا رومے کر پورا کرتا ہے۔

☆ لوطی کو زانی سے بھی زیادہ لعن طعن کی جاتی ہے اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اگر کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے خوب ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے، گدھے پر بٹھا کر گلی محلے میں پھرایا جاتا ہے۔

لواطت کے نقصانات کو یورپ کے کفار ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کیا ہے اور اپنی تحقیقات میں واضح کیا ہے کہ لواطت کے ذریعے ایک بیماری HIV بڑھ رہی ہے۔ ایچ آئی وی کا مطلب ہے "انسانی قوت مدافعت میں کمی کا وائرس" یہ ایک ایسا وائرس (جرثومہ) ہے جو جسم کے مدافعتی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ایچ آئی وی جسم کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ معمولی بیماری کے خلاف بھی مدافعت کی سکت نہیں رہتی اور آخر کار متاثرہ شخص میں بیماری کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان علامات کے مجموعے کو ایڈز کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں ایک اس کے نقصانات پر کئی تحقیقات کی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپین

HIV/AIDS. Despite efforts by gay activists to disassociate homosexuality from the spread of AIDS, homosexual behavior, particularly among males, is associated with an increased risk of HIV. Although HIV can be transmitted through both vaginal and anal intercourse, receptive anal sex without a condom is at least 10 times more risky for contracting HIV than vaginal sex without a condom, according to amfAR.

Not surprisingly, MSM experience the majority of HIV/AIDS diagnoses. According to the CDC, MSM accounted for 72 percent of all HIV infections among men in 2005 (this includes men who have sex with men and inject drugs). Among all individuals diagnosed with HIV/AIDS in 2005, MSM accounted for 53 percent of cases.

Recent studies in cities across the U.S. show an alarming increase in HIV infection among homosexual men, particularly in young MSM. The

2009) (Center for Disease Control, cdc.gov/nchhstp/newsroom/HIVIncidencePressRelease.html) "A recent CDC study found that in 2008 one in five (19%) MSM in 21 major US cities were infected with HIV, and nearly half (44%) were unaware of their infection. (<http://www.cdc.gov/hiv/topics/msm/index.htm>)

U.K میں 25 فیصد ایچ آئی وی بیماری ہے اور یونائیٹڈ کنگڈم میں چھبیس ہزار

پانچ سو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔

25% of HIV infected in U.K. unaware of their infection: "Of the estimated 86,500 people living with HIV in the United Kingdom, about 25 percent are not aware they are infected, the Health Protection Agency said recently." (The Body, thebody.com/content/art59714.html)

(<http://carm.org/is-homosexuality-dangerous>)

AMFAR کے مطابق زنا کے مقابلے میں لواطت کرنے سے AIDS کی

بیماری کا خطرہ 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 72 فیصد ایچ آئی وی ایڈز انفیکشن لواطت کے سبب ہوتا ہے اور ہائپاٹائٹس B اور C بھی لواطت کے سبب پھیلتا ہے۔ پوری رپورٹ یوں

ہے:-

two times more common in men who have sex with men than in the general population.

اس پوری رپورٹ کا خلاصہ یوں ہے کہ CDC کی رپورٹ کے مطابق لواطت کی وجہ سے HIV اور AIDS کی بیماری بہت خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ 2007ء میں امریکہ کے ادارے (FDA (Food and Drug Administration) نے اپنی 15 سالہ پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے لواطت میں مبتلا لوگوں پر Blood donate کرنے کی پابندی لگا دی۔ FDA's نے اس پابندی کی وجہ یہ بتائی کہ جو ایک بار بھی لواطت کر لیتا ہے تو اس سے AIDS کی بیماری عام لوگوں کی نسبت 60 گنا زیادہ پھیلتی ہے۔ لواطت کی وجہ سے بہت سی دوسری بیماریاں بھی پھیلتی ہیں جیسے لواطت کرنے والوں میں Hepatitis-B کی بیماری عام لوگوں کی نسبت 5 سے 6 گنا زیادہ پائی جاتی ہے اور Hepatitis-C کی بیماری تقریباً 2 گنا زیادہ پائی جاتی ہے۔

(<http://www.ncfamily.org/FNC/0707S3.html>)

ہولی وڈ اور یورپین میڈیا جو لواطت کو تقویت دینے والا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ لواطت کا کوئی نقصان نہیں بلکہ یہ صحت کے لئے اچھی ہے (جیسا کہ جاہل میڈیا کی یہ عادت قبیحہ پاکستان میں بھی رائج ہے کہ اپنی جہالت میں حرام کو حلال ٹھہرا کر اسے فائدہ بخش سمجھتے ہیں۔) جبکہ یورپین ڈاکٹروں نے میڈیا کی اس بات کی سخت تردید کی ہے اور کہا ہے کہ لواطت کئی خطرناک بیماری کی موجب ہے۔ چنانچہ ایک رپورٹ میں پی ایچ ڈی ہولڈر Timothy J. Dailey لکھتا ہے کہ لواطت STDs (امراضِ خبیثہ، معاشرتی بیماریاں)، Hepatitis، HPV (ویس لپول کا ہائی پیسج وائرس)، syphilis (آتشک

CDC reports that the number of HIV/AIDS diagnoses for MSM (including MSM who inject drugs) increased by 13 percent from 2001 to 2005.[xxxviii]

In May 2007, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) renewed its 15-year policy banning men who have had sex with men at any time since 1977 from donating blood. The FDA's explanation for the policy includes the following facts: "Men who have had sex with men since 1977 have an HIV prevalence 60 times higher than the general population, 800 times higher than first time blood donors, and 8000 times higher than repeat blood donors."

"MSM also have an increased risk of having other infections that can be transmitted to others by blood transfusion. For example, infection with the Hepatitis B virus is about five to six times more common and Hepatitis C virus infections are about

Homosexual activists attempt to portray their lifestyle as normal and healthy, and insist that homosexual relationships are the equivalent in every way to their heterosexual counterparts. Hollywood and the media relentlessly propagate the image of the fit, healthy, and well-adjusted homosexual. The reality is quite opposite to this caricature which was recently conceded by the homosexual newspaper New York Blade News:

Reports at a national conference about sexually transmitted diseases indicate that gay men are in the highest risk group for several of the most serious diseases. . . . Scientists believe that the increased number of sexually transmitted diseases (STD) cases is the result of an increase in risky sexual practices by a growing number of gay men who believe HIV is no longer a life-threatening illness.

Instability and promiscuity typically characterize

گرمی:۔ اس کا سبب ٹریپونیمائیلیڈم ہے۔ مرض لگنے کے چار یا پانچ ہفتوں میں عضو خاص کے اندر پھنسی نکلتی ہے اور سارا جسم دانوں سے بھر جاتا ہے 15 تا 30 سال میں سب اعصاب بیکار ہو جاتے ہیں۔) gonorrhea (سوزاک۔ گنوریا۔ پیشاب کی نالی کی مُعدّی سوزش والی بیماری جو بقیہ سوزاک سے پیدا ہوتی ہے۔) اور ایڈز جیسے بیماریوں کا موجب ہے۔ پوری رپورٹ یوں ہے:-

“The Negative Health Effects of Homosexuality”

Timothy J. Dailey, Ph. D.

Powered by Translate

Summary:

Hollywood and the media relentlessly propagate the image of the fit, healthy, and well-adjusted homosexual. The reality is at polar opposites to this caricature: homosexual and lesbian relationships are typically characterized by instability, promiscuity, and unhealthy and risky sex practices, factors that greatly increase the incidence of serious and incurable sexually transmitted diseases (STDs), including hepatitis, HPV, syphilis, gonorrhea, and AIDS.

American Cancer Society, risk factors for anal cancer include: Human papilloma virus (HPV), which causes anal and/or genital warts; multiple Due to sexual partners; and anal intercourse. concerns about anal cancer, some health professionals now recommend anal Pap Smears for MSM. (<http://www.ncfamily.org/FNC/0707S3.html>)

بعض ڈاکٹروں نے تصریح کی کہ ہم جنسی پاگل پن کا بھی سبب ہے۔ پوری رپورٹ یوں ہے:-

Higher Risk of Mental Health Problems for Homosexuals

By JANE COLLINGWOOD

Homosexual people tend to experience more mental health problems than heterosexual people, research indicates. Discrimination may contribute to the higher risk, believes lead researcher Dr. Apu Chakraborty of University College London, UK.

His team looked at rates of mental disorder among 7,403 adults living in the UK, whose details

homosexual relationships. These two factors increase the incidence of serious and incurable stds. In addition, some homosexual behaviors put practitioners at higher risk for a variety of ailments, as catalogued by the following research data...

اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ لواطت پسندوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ لواطت کرنے والوں کی زندگی نارمل اور صحت مند گزرتی ہے اور لواطت کے تعلقات شادی کے تعلقات کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ Hollywood میڈیا بھی بے رحمی سے اسی بات کی اشاعت کر رہا ہے لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔

حال ہی میں New York کے ایک اخبار نے تسلیم کیا ہے کہ قومی مشاورت کی رپورٹ کے مطابق لواطت کرنے والوں میں بہت سی خطرناک بیماریاں پائیں جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کا اس بات پر یقین ہے کہ جنسی بیماریاں لواطت ہی سے پھیلتی ہیں۔ ہم جنسی تعلقات سے لاعلاج بیماریاں پھیلتی ہیں اور لواطت میں مبتلا کچھ لوگ تو بہت سی تکلیف دہ امراض کے خطرے سے دوچار ہیں۔

(<http://www.orthodoxytoday.org/articles4/DaileyHomosexuality.php>)

امریکن کینسر سوسائٹی نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ لواطت کرنے سے پیٹھ کا کینسر ہو جاتا ہے۔

Anal Cancer. Homosexual men are also at an increased risk for anal cancer. According to the

sample of the population.

“Our study confirms earlier work carried out in the UK, USA and Holland which suggests that non-heterosexual people are at higher risk of mental disorder, suicidal ideation, substance misuse and self-harm than heterosexual people.”

اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے برطانیہ میں رہنے والے 7403 پاگل افراد پر سروے کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ لواطت کرتے تھے۔ سروے سے یہ بھی پتہ چلا کہ لواطت کرنے سے انسان کو ذہنی پریشانی، چڑچڑاپن اور دیگر دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور نشہ آور ادویات استعمال کرنے لگتا ہے۔ لواطت کرنے والے لوگ ذہنی پریشانی اور دماغی امراض کا شکار عام لوگوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں 30% لوگ حقیقت پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنی زندگی نارمل بتاتے ہیں (شائد شرمندگی سے بچنے کے لئے)۔ ڈاکٹر چکرا برٹی کا کہنا ہے کہ لواطت، بد فعلی اور مشمت زنی کے اوپر یہ پہلی تحقیق ہے جس میں بہت ہی پریشان کن نتائج اخذ کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر چکرا برٹی کی تحقیق نے بھی برطانیہ، امریکہ اور ہالینڈ جیسے ممالک میں کی جانے والی تحقیق کی تائید کی ہے کی لواطت اور مشمت زنی سے انسان بالآخر پاگل ہو جاتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔

(<http://psychcentral.com/lib/2011/higher-risk-of-mental-health-problems-for-homosexuals/>)

ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لواطت انسان کی بیس سال کی عمر کم کر دیتی ہے چنانچہ لکھا

were obtained from the Adult Psychiatric Morbidity Survey 2007. Rates of depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, phobia, self-harm, suicidal thoughts, and alcohol and drug dependence were significantly higher in homosexual respondents.

Four percent had a depressive episode in the last week, compared to two percent of heterosexual people. The rate of alcohol dependence was ten percent versus five percent, and for self-harming it was nine percent versus five percent.

The proportion of homosexual people who described themselves as being fairly or very happy was 30 percent, versus 40 percent for heterosexual people.

Dr. Chakraborty believes the findings are “very worrying.” He said, “This study is the first time the mental health and well-being of gay, lesbian and bisexual people has been examined in a random

choose wisely, that is to choose to be obedient to God instead of a slave to the sin of homosexuality. In this modern era, people discuss the topic of homosexuality almost on a daily basis. It is interesting to see how so many people contort themselves into pretzels in order to hide the disastrous effects of homosexuality and try to promote the positive (as if there is anything positive about it). Even though there is nothing positive about homosexuality, many want to convince everyone that it is ok to be homosexual, even cool, hip, and modern. The truth about homosexuality is that it is evil, leaving a wake of destruction in its unholy path. The Bible says that those who practice the devious sin of homosexuality receive in their own bodies the punishment for their actions. Now the medical field has the evidence to prove what the Bible has been saying all along. I do not wish death upon anyone, especially upon homosexuals, but

ہے:-

If you are a homosexual then you shorten your life by at least 20 years.

(<http://erikbrewer.wordpress.com/2009/12/07/homosexuality-is-dangerous-for-your-health/>)

ایک عیسائی نے ایک مضمون میں لواطت کی تباہ کاریوں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لواطت آپ کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو لوگ لواطت کو پسند کرتے ہیں وہ اس گناہ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو لوگ لواطت جیسے شیطانی کام کرتے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جانوں کو گنوار ہے ہیں۔ آج کی طب نے بھی بائبل کی اس بات کو صحیح ثابت کر دیا ہے۔ لواطت کی سزا موت ہی ہے کیونکہ انسان لواطت کر کے خود ہی اپنے آپ کو اس گڑھے میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ لواطت کو ایک اچھا عمل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگوں کو تباہی اور موت کی مشورہ دے رہے ہیں۔ پورا مضمون یوں ہے:-

Homosexuality is dangerous for your health

In this article I would like to demonstrate how homosexuals destroy their health and their lives because of their dangerous lifestyle choice. I want to help people who are homosexual as well as those who are considering becoming homosexual to

death is the exact payment for the homosexual lifestyle (not brought upon by another person directly). Because I do not wish death upon anyone I am motivated by the love of God to share the truth, the Word of God about homosexuality and its dangers. People who promote homosexuality are evil because they support a lifestyle that kills and destroys.

(<http://erikbrewer.wordpress.com/2009/12/07/homosexuality-is-dangerous-for-your-health/>)

المختصر یہ کہ لواطت دینی، دنیاوی، طبی ہر صورت میں تباہ کن ہے، کسی مذہب میں

اس کی اجازت نہیں ہے۔

عورت کا عورت کے ساتھ Sex کرنا

مردوں کی طرح عورتوں کا بھی باہم سیکس کو ”السَّحَاقُ“ کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ بھی قوم لوط سے ملتی ہے جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں فرمایا ہے۔ یعنی قوم لوط کے مرد مردوں سے بد فعلی کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے۔ لواطت کی طرح ”سحاق“ بھی ناجائز و حرام ہے اور حضور علیہ السلام نے اسے زنا قرار دیا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک ہے ”عن أبی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانیان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانیتان“ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر مرد مرد کے ساتھ بد فعلی کرے تو دونوں زانی ہیں اور عورت عورت کے ساتھ بد فعلی کرے تو دونوں زانیہ ہیں۔

(السنن الکبریٰ، کتاب الحدود، باب ما جاء فی حد اللوطی، جلد 8، صفحہ 406، دار الکتب العلمیة، بیروت)

الزواج عن اقتراف الکبائر میں احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی (المتوفی 974ھ)

میں لکھتے ہیں ”(مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل) کذا ذکره بعضهم واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: السحاق زنا النساء بينهن وقوله: ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر“ ترجمہ: مساحقة النساء یہ ہے کہ عورت عورت کے ساتھ اسی طرح بد فعلی کرے جیسے مرد آپس میں کرتے ہیں جیسا کہ بعضوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے: عورتوں کا آپس میں سحاق زنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا قول ہے: اللہ عزوجل تین لوگوں کی شہادت لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتا، (وہ تین یہ ہیں) بدکاری کرنے والا اور کروانے والا، بدکاری کرنے والی اور کروانے والی اور ظالم حکمران۔

(الزواج عن اقتراف الکبائر، جلد 2، صفحہ 235، دار الفکر، بیروت)

امرد پسندی

بے ریش خوبصورت لڑکوں کو امر دکھا جاتا ہے۔ چونکہ لواطت کرنے والے ایسے لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں، انہیں چھوتے ہیں اور ان سے لواطت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلئے بزرگوں نے مردوں سے دور رہنے اور ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے کہ کہیں انسان ہلاک نہ ہو جائے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ”عن أبی سہل

قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون، على ثلاثة أصناف صنف ينظرون وصنف يصفاحون وصنف يعملون ذلك العمل“ ترجمہ: حضرت ابوہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: عنقریب اس امت میں ایک قوم آئے گی جسے لوطیہ کہا جائے گا۔ وہ لوگ تین طرح کے ہوں گے: وہ جو (شہوت کے ساتھ) مردوں کو دیکھیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور ایک وہ ہوں گے جو ان سے لواطت کریں گے۔ (شعب الإيمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 287، مکتبۃ الرشید، ریاض)

اسی طرح مرد لڑکوں کے لئے بھی عذاب ہے اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کرتے اور لوگوں سے وہی کرواتے ہیں۔ الزواجر عن الکبائر میں احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی (المتوفی 974ھ) لکھتے ہیں ”روی أن عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم مر في سياحته على نار تنوقد على رجل فأخذ ماء ليطفئها عنه فانقلبت النار صبيا وانقلب الرجل نارا، فتعجب عيسى من ذلك، فقال يا رب ردهما إلى حالهما في الدنيا لأسألهما عن خبرهما فأحياهما الله تعالى فإذا هما رجل وصبي، فقال لهما عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم، ما خبركما وما أمركما؟ فقال الرجل: يا روح الله إني كنت في الدنيا مبتلى بحب هذا الصبي فحملتني الشهوة أن فعلت به الفاحشة فلما مت ومات الصبي صير الله الصبي نارا يحرقني مرة وصيرني نارا أحرقه أخرى فهذا عذابنا إلى يوم القيامة“ ترجمہ: مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے سفر کے دوران ایک مرد کو دیکھا اس پر آگ جل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پانی لے کر آگ بجھانا چاہی تو آگ نے مرد کی صورت اختیار کر لی اور آدمی آگ کی صورت میں بدل

گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے تعجب ہوا تو آپ نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عزوجل! ان دونوں کو ان کی دنیا کی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان (سے ان کے احوال) کی خبر پوچھوں۔ اللہ عزوجل نے دونوں کو زندہ کیا وہ ایک شخص اور مرد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کی کیا خبر ہے اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ مرد کہنے لگا: یا روح اللہ علیہ السلام! میں دنیا میں اس بچہ کی محبت میں گرفتار ہوا اور شہوت نے مجھے ابھارا کہ میں اس سے بد فعلی کروں۔ جب ہم دونوں مر گئے۔ اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور یہ ہمارا عذاب قیامت تک ہے۔

(الزواجر عن الکبائر، جلد 2، صفحہ 233، دار الفکر، بیروت)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو فرماتے سنا: ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ مگر ہر لڑکے کے ساتھ اٹھارہ (18) شیطان ہوتے ہیں۔ مروی ہے کہ جس نے ایک لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اسے پانچ سو برس تک عذاب دے گا اور جس نے کسی عورت کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا، گویا اس نے ستر کنواری عورتوں سے زنا کیا اور جس نے ایک کنواری عورت سے زنا کیا، گویا اس نے ستر ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔“

(مکاشفة القلوب، صفحہ 182، مکتبہ اسلامیات، لاہور)

امرد سے خلوت کرنے سے بھی بچنا چاہئے اور اگر خلوت میں فتنے کا خوف ہو تو خلوت کرنا ناجائز ہے۔ امرد پسندی کے عذاب و احکام کے متعلق مزید معلومات کے لئے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ”قوم لوط کی تباہ کاریاں“ کا مطالعہ کریں۔

فصل پنجم: مشت زنی (Masturbation) کا عذاب

یہ انزال کا غیر طبعی طریقہ ہے جس میں انسان ہاتھ سے یا کسی اور مصنوعی طریقہ سے انزال کرتا ہے اور اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرتا ہے۔ اس عادت بد کو خود لذتی اور پینڈ پریکٹس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی اسی فعل بد میں مبتلا ہیں۔ مشت زنی کا سبب بری صحبت، عشقیہ ناول، موبائل پر عشقیہ باتیں، کیبل یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال خصوصاً گندی فلمیں وغیرہ ہے۔ مشت زنی کے دنیاوی و اخروی نقصانات ہیں۔ پہلے اخروی نقصانات پیش خدمت ہیں:-

مشت زنی کرنے والا لعنتی ہے

مشت زنی یعنی اپنے ہاتھ سے انزال کرنا ناجائز و حرام اور لعنتی فعل ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ناکح الید ملعون“ ترجمہ: ہاتھ سے نکاح کرنے والا (یعنی مشت زنی کرنے والا) ملعون ہے۔

(البحر الرائق، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده، جلد 2، صفحہ 293، دار الکتب الإسلامی)

یہ حدیث موضوع نہیں ہے جیسا کہ بعض اہل علم حضرات کا خیال ہے۔

مشت زنی کرنے والے پر رب تعالیٰ کی نظرِ رحمت نہ ہونا

مشت زنی پر شدید وعید وارد ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی کی حدیث پاک ہے

”عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، ولا يزكهم، ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده، والفاعل والمفعول به، والمدمن بالخمر، والضارب أبويه حتى

يستغيثا، والمؤذى جيرانه حتى يلغنه، والناكح حليلة جاره“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات افراد ہیں جن کی طرف اللہ عزوجل قیامت والے دن نظرِ رحمت نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ انہیں عالمین کے ساتھ جمع کرے گا اور انہیں سب سے اول دوزخ میں ڈالے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ تو جس نے توبہ کر لی تو اللہ عزوجل ان کو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ (وہ چھ افراد یہ ہیں) ہاتھ سے نکاح کرنے والا ہے (یعنی مشت زنی کرنے والا)، لواطت کرنے والے، لواطت کروانے والا، عادی شربی، والدین ایسا مارنے والا کہ وہ مدد مانگتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ایسی ایذا دینے والا کہ وہ اس پر لعنت کریں، اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا۔

(شعب الإيمان، تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها، جلد 7، صفحہ 329، مکتبۃ الرشديا، ریاض)

مشت زنی پر امت کو عذاب

روح المعانی میں ہے ”عن سعید بن جبیر عذب الله تعالى أمة كانوا

يعبثون بمذاكيرهم“ ترجمہ: حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عزوجل نے ایک امت کو عذاب دیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیلتی تھی (یعنی مشت زنی کرتی تھی)۔

(روح المعانی، جلد 9، صفحہ 214، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

البدرا المنیر میں ابن الملقن لکھتے ہیں ”عن أبی سعید الخدری أهلك الله

عز وجل أمة كانوا يعبثون بذکورهم“ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے ایک امت کو ہلاک کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیلتی

تھی۔

(البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأثار الواقعة فی الشرح الكبير، جلد 7، صفحہ 662، دار الهجرة، الرياض)

مشت زنی کرنے والوں کا قیامت والے دن حال

شعب الایمان میں ہے ”عن أنس بن مالك قال یجىء الناکح یدہ یوم القیامة ویدہ حبلی“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مشت زنی کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا۔

(شعب الایمان، تحریم الفروج، جلد 7، صفحہ 330، مکتبۃ الرشید، ریاض)

روح المعانی میں ہے ”عن عطاء سمعت قوما یحشرون وأیدیہم حبالی وأظن أنہم الذین یستمنون بأیدیہم“ ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا ہے محشر کے میدان میں ایک قوم آئے گی جس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے میں گمان کرتا ہوں وہ قوم مشت زنی کرنے والی ہوگی۔

(روح المعانی، جلد 9، صفحہ 214، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

مشت زنی کے دنیاوی نقصانات

مشت زنی کے دنیاوی بھی بہت نقصانات ہیں جیسے کمزوری، لاغرگی اور شادی کے قابل نہ رہنا، مادہ منویہ کا ناقص و خراب ہونا وغیرہ مزید تفصیل یوں ہے:-

☆ مشت زنی کی عادت زنا اور لواطت سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے کہ اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے جو اس کا عادی ہوتا ہے وہ دن میں کئی مرتبہ اس کا ارتکاب کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

☆ یہ عمل لوگوں کو شہوانی قوی کی کمزوری میں مبتلا کرتا ہے۔

☆ اس سے دلیری اور ایمان داری رخصت ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ سستی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔

☆ یہ غیر فطری جنسی عمل پانچوں حواس سے اس قدر قریبی تعلق رکھتا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ اور کان پر اس طرح اثر کرتا ہے کہ نظر کو کمزور کر دیتا ہے اور سماعت کو بھی خاص حد تک ناکارہ بنا دیتا ہے۔ جب یہ عمل ہر بار کئی کئی منٹ تک جاری رہتا ہے تو انہیں چکر آ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کانوں میں گھٹیوں کی سی آوازیں آنے لگتی ہیں جن سے انہیں بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اور روحانی قوتیں کم ہو جاتی ہیں، خون گھٹ جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے، یاداشت کمزور پڑ جاتی ہے، جسم ڈبلا ہو جاتا ہے، سستی اور کالہلی بے حد بڑھ جاتی ہے، بھوک جاتی رہتی ہے، کج خلقی پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، سر میں درد رہنے لگتا ہے اور دوسری بیماریوں کی ہزاروں مصیبتیں ہیں جو اس فعل بد کرنے والوں کو آگھیرتی ہیں۔ البتہ جو لوگ جسمانی لحاظ سے قوی ہیں ممکن ہے ان کا ان بیماریوں سے دیر میں سابقہ پڑے لیکن ان سے بچنا یا بچے رہنا ناممکن ہے اور سب کو خواہ مخواہ ان مصیبتوں میں گرفتار ہونا ہی پڑتا ہے۔

☆ مشت زنی کرنے والوں کی ایک بدبختی یہ ہے کہ ان کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، اس لئے جب انہیں اپنے عمل کے نتیجے کا پتہ لگتا ہے تو ان میں اتنی قوت ارادی نہیں ہوتی کہ اسے چھوڑ سکیں۔

☆ یہ عمل جسمانی نقصانات کے علاوہ جنسی لحاظ سے بھی انسان کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی رس دینے والے اندرونی غدودوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ غدود مادہ منویہ بناتے ہیں جو مشت زنی کے باعث دھیرے دھیرے چھوٹے ہو کر چنے کے برابر ہوتے ہیں اور

چونکہ اس صورت میں یہ مادہ یعنی ماء الحیات یا آبِ زندگی نہیں بنا سکتے، انسان ہمیشہ کے لیے جنسی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر اس صورت میں مکمل طور پر نامرد نہ بھی ہو تو قطعی طور پر دوسری جنسی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کی پیشاب کی جگہ خون آنے لگتا ہے۔

☆ مشت زنی کرنے والا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ بیماری عموماً قوت باہ کے ضعیف ہونے پر لاحق ہوتی ہے خاص صلاحیت کی محرومی سے مریض حقوق زوجیت پوری طرح ادا نہیں کر پاتا۔ چنانچہ وہ صنف مخالف کے سامنے خود کو کم تر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے یہ احساس اندر ہی اندر اس کی روح کو مجروح کر ڈالتا ہے۔ اور حتمی طور پر وہ دنیا کی رنگینیوں سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔

☆ ایسا کرنے والے پر ندامت مسلط ہو جاتی ہے اور مریض ہر وقت شرمندگی اور ندامت کا شکار رہتا ہے اس کی بنیادی وجہ سرعت انزال کی بیماری ہے۔ سرعت انزال کا مریض چونکہ حقوق زوجیت صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا لہذا اسے شریک حیات کے سامنے خفت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات اس کے دل و دماغ میں گھر کر جاتی ہے اور وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔

☆ جنسی بیماریوں میں مبتلا اپنی خامیوں کے سبب اندر ہی اندر کڑھتے رہتا ہے۔ جب وہ کسی صحت مند انسان کو ازدواجی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتا دیکھتا ہے تو اسے خود سے نفرت اور دوسروں سے حسد ہونے لگتا ہے۔ اور وہ وحشت زدہ ہو کر زندگی کی تمام رنگینیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

☆ اپنی خامیوں کا احساس ایسے مریض کو دیکھ زدہ کر دیتا ہے اور انہی خامیوں

کے باعث اس پر ایک انجانا خوف طاری رہتا ہے۔ صنف مخالف کو دیکھتے ہی ایسا بندہ سپینے میں شراہور ہو جاتا ہے۔ زبان سے بات نہیں نکلتی، ٹانگیں اور ہاتھ کا پینے لگتے ہیں حلق خشک ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص شادی کے نام سے بہت گھبراتا ہے، اسے یہی خوف رہتا ہے کہ شادی کے موقع پر اگر وہ فطری فریض ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ وہ پریشان ادھر ادھر حکیموں وغیروں کا پوچھتا ہے اور لوگوں پر اپنا راز فاش کرتا ہے اور ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔

☆ مشت زنی کرنے والے کو وہم بہت ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بری بیماری ہے جو مریض کو کسی قابل نہیں رکھتی ایسا مریض اپنی ہی خیالی اور دیوانی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ ہر کام میں وہ منفی پہلو تلاش کر کے اس کا جواز پیش کرتا ہے۔ یہ حد سے زیادہ حساس پن کے باعث ہوتا ہے۔

☆ سرعت انزال، ضعف باہ، بانجھ پن اور جریان میں مبتلا مریض عموماً چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر انہیں فوراً غصہ آ جاتا ہے یہ دراصل ان کی خامیوں کا نتیجہ ہے جو انہیں بد مزاج کر دیتا ہے۔ ایسا مریض لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دنیا کی کسی خوشی میں ان کیلئے دلچسپی باقی نہیں رہتی۔

☆ مشت زنی کرنے والا اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، کوئی خوبصورت عورت دیکھ کر یا کوئی شہوت پرینی سین دیکھ کر بلکہ جانوروں کے باہم ملاپ کو دیکھ کر فوراً جلق (مشت زنی) کرنے لگ جاتا ہے۔

مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنے ہاتھ سے فارغ ہوتی ہیں، عورتوں کا ایسا کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے اور اس کے بھی تقریباً وہی نقصانات ہیں جو مردوں کے لئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ بیوی کا ایک دوسری کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے۔

ایک مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ شرعی اور سائنسی دونوں اعتبار سے مشمت زنی جائز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مشمت زنی کی حرمت پر موجود احادیث ضعیف ہیں اور بعض ائمہ نے مشمت زنی کی اجازت بھی دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ نظریہ باطل و مردود ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ مشمت زنی کا ناجائز و حرام ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے چنانچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُفُورِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

آخری آیت میں صراحت ہے کہ زوجہ اور لونڈی کے علاوہ کسی اور طرح شرمگاہ کا استعمال کرنا حد سے بڑھنا ہے۔ لہذا مشمت زنی کرنا حد سے بڑھنا ہے اور اس آیت کے تحت مفسرین، محدثین اور فقہائے کرام نے یہی فرمایا ہے کہ مشمت زنی کی حرمت اس آیت سے ثابت ہے۔ تفسیر القرآن میں ابوالمظفر منصور بن محمد السمعانی (المتوفی 489ھ) لکھتے ہیں ”واستدل العلماء بهذه الآية على أن الاستمناء باليد حرام، وعن ابن عباس سئل عنه فقال: هو نائك نفسه، وعن ابن جريج أنه قال: سألت عطاء عنه فقال: هو مكروه، فقلت أفیه حد؟ فقال: ما سمعت. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سئل عن هذا الفعل فقال أف أف! سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالی، فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبیر قال: عذب الله أمة

من الأمم كانوا يعثون بمذاكيرهم. وكرهه مالك والشافعي، وحكى أبو عاصم النبيل عن أبي حنيفة أنه كرهه وذكر النقاش في تفسيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: أولئك أقوام لا خلاق لهم ملخصاً، ترجمہ: علمائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا کہ مشمت زنی حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشمت زنی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اپنے نفس سے جماع کرنا ہے۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عطاء سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ مکروہ ہے۔ میں نے کہا کیا اس فعل پر حد ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کے متعلق میں نے سنا نہیں ہے۔ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اف اف! میں نے سنا ہے کہ ایک قوم کا قیامت والے دن اس طرح حشر ہوگا کہ ان کی ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ مشمت زنی کرنے والے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے امتوں میں سے ایک امت کو اس پر عذاب دیا کہ وہ اپنے عضو تناسل کے ساتھ بری حرکت کرتے تھے۔ امام مالک اور امام شافعی نے مشمت زنی کو مکروہ (تحریمی) فرمایا اور عاصم نبیل نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کیا ہے کہ انہوں نے مشمت زنی کو مکروہ (تحریمی) فرمایا۔ حضرت نقاش نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ مشمت زنی کرنے والی ایک قوم ہے جس میں اخلاق نہیں ہے۔

(تفسیر القرآن، جلد 3، صفحہ 464، دار الوطن، الرياض)

پھر مشمت زنی کی حرمت پر کئی احادیث بھی وارد ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، یہ احادیث اگر ضعیف بھی ہوں لیکن جب قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت مسئلہ کی تائید

میں ہیں تو اس سے مشمت زنی کی حرمت اور واضح ہوتی ہے۔ پھر مشمت زنی پر وارد احادیث متعدد طرق سے ثابت ہیں جو ضعیف ہونے کے باوجود حسن کے درجہ میں ہیں چنانچہ امام ابن حجر کی صواعق محرقة میں دس محرم اہل عیال میں کھانے کی وسعت کے متعلق حدیث پر کلام کرتے ہوئے امام ابو بکر بیہقی سے نقل کرتے ہیں ”ہذہ الاسانید وان کانت ضعيفة لكنها اذا ضم بعضها الى بعض احدثت قوة“ ترجمہ: یہ سندیں اگرچہ سب ضعیف ہیں مگر آپس میں مل کر قوت پیدا کریں گی۔

(الصواعق المحرقة، فصل اول، جلد 2، صفحہ 536، مؤسسة الرسالة، بیروت)

مرقاۃ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”الطرق يبلغ الحديث الضعيف الى حد الحسن“ متعدد روایتوں سے آنا حدیث ضعیف کو درجہ حسن تک پہنچا دیتا ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، فصل الثانی من باب ما لا يجوز من العمل فی صلاة، جلد 2، صفحہ 795، دار الفکر، بیروت)

علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ حدیث ضعیف اہل علم کے عمل سے بھی قوی ہو جاتی ہے چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قد صرح غیر واحد بان من دلیل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله“ یعنی معتمد علمائے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگرچہ اُس کے لئے کوئی قابل اعتماد قسم کی سند نہ ہو۔

(التعقبات على الموضوعات، باب الصلوة، صفحہ 12، مکتبہ اثریہ، سانگلہ ہل)

جب ایک ضعیف حدیث کا یہ حال ہے کہ اہل علم کے عمل سے وہ احکام میں بھی معتبر ہے تو مشمت زنی کے متعلق تو کئی احادیث وارد ہیں پھر سلف و خلف کے مفسرین

ومحدثین وفقہاء نے ان احادیث اور قرآن پاک کی آیت سے مشمت زنی کو ناجائز و حرام فرمایا ہے تو پھر کیسے ان سب دلائل کو ضعیف کہہ کر نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟

ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ بعض فقہاء نے مشمت زنی کی اجازت دی ہے وہ بھی غلط ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک مشمت زنی حرام ہے چنانچہ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ میں ہے ”ذهب المالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ فی المذہب والحنفیۃ فی قول الی ان الاستمناء محرم؛ لقول الله تعالى ﴿والذین هم لفروجهم حافظون﴾“ ترجمہ: مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ مذہب میں اور حنفیہ قول میں اس طرف گئے ہیں کہ مشمت زنی حرام ہے۔ اللہ عزوجل کافر مان ہے: اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

(الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ، جلد 45، صفحہ 272، طبع الوزارة)

ہاں ایک خاص مجبوری کے تحت مشمت زنی کی اجازت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب شہوت تنگ کرے اور شادی کروانے کی کوئی صورت نہ ہو، روزے رکھنے سے بھی شہوت ختم نہ ہو اور زنا میں پڑنے کا شدید خوف ہو تو اس وقت شہوت ختم کرنے کے لئے نہ کہ حصول لذت کے لئے مشمت زنی کی اجازت ہے۔ حاشیہ صاوی شریف میں ہے ”الاستمناء بالید فهو حرام عند مالک والشافعی وابی حنیفہ، وقال احمد بن حنبل: یجوز بشروط ثلاثة: ان ینخاف الزنی، ولا یجد مهر حرة او ثمن امة، وان یفعله بیده لا بید اجنبی او اجنبیة“ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مشمت زنی حرام ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے تین شرطوں کے ساتھ اسکو جائز کیا (1) زنا کا خوف ہو (2) اتنا مال نہیں کے آزاد عورت سے شادی کر کے اسکا مہر دے سکے یا اتنے پیسے نہیں کہ کوئی لونڈی خرید سکے۔ (3) جب شہوت غالب ہو اور

خوف ہو کہ زنا ہو جائے گا تب) اپنے ہاتھ سے مشمت زنی کر سکتا ہے نہ کہ کسی اور اجنبی مرد یا عورت کے ہاتھ سے مشمت زنی کروائے۔

(حاشیۃ الصاوی، جلد 4، صفحہ 1357، دارالفکر، بیروت)

طریقہ محمدیہ میں ہے ”اما الاستمناء فحرام الا عندنا شروط ثلثة ان یکون

عزبا و به شبق و فرط شهوة (بحیث لو لم يفعل ذلك لحملته شدة الشهوة علی الزنا او اللواط والشروط الثالث ان یرید به تسکین الشهوة لاقضاءها“ مشمت زنی حرام ہے مگر تین شرائط کے ساتھ ہمارے نزدیک جواز کی گنجائش ہے (1) کنوارہ ہو (2) بہت شہوت والا ہو اور شہوت اس قدر غالب ہو کہ بدکاری، زنا، یا لونڈے بازی وغیرہ کا اندیشہ ہو (3) تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے محض تسکین شہوت مقصود ہو نہ کہ حصول لذت۔

(الطریقہ محمدیہ، الاستمناء بالید، جلد 2، صفحہ 255، مکتبہ حنفیہ، کوئٹہ)

مصنف عبدالرزاق کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رجل انی

أعبث بذکری حتی أنزل؟ قال إن نکاح الأمة خیر منه وهو خیر من الزنا“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی شرمگاہ سے کھیلتا ہوں یہاں تک کہ انزال ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا لونڈی سے نکاح کرنا مشمت زنی سے بہتر ہے اور مشمت زنی زنا سے بہتر ہے۔

(المصنف، کتاب الطلاق، باب الاستمناء، جلد 7، صفحہ 390، المجلس العلمی، الہند)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں: ”وہ (مشت زنی کرنے والا) گناہ گار ہے، عاصی ہے اصرار کے کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے، حشر میں ایسوں کی (یعنی مشمت زنی کرنے والوں کی) ہتھیلیاں گا بھن (حاملہ) اٹھیں گی جس سے مجمع اعظم اس کی رسوائی ہوگی اگر توبہ نہ کریں تو اور اللہ عزوجل معاف فرماتا

ہے جسے چاہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے (اس کا علاج یہ ہے کہ جس کو اس فعل بد کی خواہش ہو) اسے چاہیے کہ لاجول شریف کی کثرت کرے اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراً دل سے متوجہ بخدا عزوجل ہو کر لاجول پڑھے نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، نماز صبح کے بعد سورہٴ اخلاص کا ورد رکھے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 244، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ثابت ہوا کہ مشمت زنی حرام ہے اور بعض فقہائے کرام نے جو اجازت دی ہے وہ سخت مجبوری کے طور پر دی ہے۔ بغیر ضرورت کے کسی نے بھی مشمت زنی کی اجازت نہیں دی ہے۔ مشمت زنی کے جواز پر جو چند بزرگوں کے حوالے ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں وہ غیر ثابت ہیں جن کی کوئی سند نہیں بلکہ ان کا خلاف ثابت ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا کہنا کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے بالکل غلط ہے اور ڈاکٹر صاحب ایسا کہنے کی صورت میں سخت گناہ گار ہوئے کہ ایک بغیر علم کے فتویٰ دیا اور دوسرا ناجائز کو جائز ثابت کیا۔ ڈاکٹر صاحب پر لازم ہے کہ توبہ کے ساتھ اپنے موقف سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا کہ میڈیکل طور پر مشمت زنی کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کہ کئی لوگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ مشمت زنی کرنے کے سبب وہ نکاح کے قابل نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہئے کہ مزید غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصہ بعد جدید میڈیکل تحقیق یہ ہو کہ مشمت زنی کا نقصان ہوتا ہے، اس وقت تک کئی نوجوانوں کی صحت کا بیڑہ غرق ہو چکا ہو۔ شریعت نے جو فعل حرام ٹھہرایا اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ انہوں نے مشمت زنی کے نقصانات کا ذکر کیا ہے چنانچہ

☆ پیٹ کا درد یا اس کا اکڑ جانا اور پیٹھ میں جہاں ریڑھ کی ہڈی کا سرا ہوتا ہے اس میں درد ہونا۔

(<http://www.boloji.com/index.cfm?md=Blogs&sd=Blog&BlogID=925>)

اوپر لواطت کے تحت موجود رپورٹس و تحقیقات میں ڈاکٹر چکرا برٹی کی تحقیق پیش کی گئی کہ لواطت اور مشنت زنی سے انسان بالآخر پاگل ہو جاتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔

Dr. Vipul Sharma لکھتا ہے:-

The side effects of such changes to the body

include:

Fatigue. Feeling tired all the time

Lower back pain

Thinning hair / Hair Loss

Soft / Weak Erection

Premature Ejaculation

Eye floaters or fuzzy vision

Groin / Testicular Pain

Pain or cramp in the pelvic cavity and tail bone

یعنی مشنت زنی کے اثرات جو جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:-

☆ ہر وقت جسم تھکا ہوا محسوس ہونا۔

☆ پیٹھ کے نچلے حصے میں درد ہونا۔

☆ بالوں کا کمزور ہونا اور گرنا۔

☆ کھڑا ہونے میں کمزوری ہونا۔

☆ سرعت الانزال (جلد انزال ہو جانا)۔

☆ آنکھوں سے پانی بہنا یا دھند لانا نظر آنا۔

☆ خضیوں کا درد۔

الظلم والزنا وقتل النفس بغير الحق فقد كفر؛ لأن هذه الأشياء لم تكن حلالا فسى وقتت“ ترجمہ: ایک شخص نے تمنا کی کہ کاش اللہ عزوجل نے شراب حرام نہ کی ہوتی، ایسی شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی تمنا کرے کہ کاش اللہ عزوجل نے ظلم، زنا اور بغیر کسی شرعی حکم کے قتل حرام نہ کیا ہوتا تو تحقیق اس نے کفر کیا چونکہ زنا، قتل اور ظلم کسی بھی شریعت میں حلال نہیں رہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، مطلب فی موجبات الکفر أنواع منها ما يتعلق بالإیمان والإسلام، جلد 2، صفحہ 279، دار الفکر، بیروت)

کافرہ عورت سے زنا

زنا مسلمان تو کجا کسی کافر سے بھی حلال نہیں ہے، جو کہے کافرہ عورت سے زنا جائز ہے، اس نے کفر کیا۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک کافرہ عورت کے ساتھ اگر کوئی شخص زنا کرے مع اس کی رضا کے اور خوف شرک کا بھی نہ ہو، ایسی حالت میں کیا حکم ہے اور جو شخص اس امر کے جواز کا قائل ہو اس کے واسطے کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔“

جو اب فرماتے ہیں: ”زنا حرام ہے اور کافرہ ذمیہ کے ساتھ زنا کے جواز کا قائل ہو تو کفر ہے ورنہ باطل و مردود بہر حال ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 624، رضا فائونڈیشن، لاہور)

اگر کوئی یہ کہے کہ اگر لڑکا لڑکی راضی ہوں تو زنا حلال ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تو یہ کہنے والے کافر ہیں۔ زنا ہوتا ہی وہ ہے جو دونوں کی خوشی سے ہو ورنہ اگر ایک سے زبردستی زنا کیا جائے تو زبردستی کرنے والا زنا کر رہا ہے دوسرے پر زنا کا وبال نہیں ہے جبکہ دل سے راضی نہ ہو۔

باب دوم: زنا کے متعلق شرعی احکام۔۔

فصل اول: زنا، لواطت اور مشیت زنی کی سزا

زنا کی حرمت

زنا کے حرام قطعی ہونے میں کوئی شک نہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔

(سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ 17، آیت 32)

قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ عزوجل نے زنا کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ سورۃ الفرقان میں ہے ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔

(سورۃ الفرقان، سورۃ 25، آیت 68، 69)

زنا کے حلال ہونے کی تمنا کرنا

اللہ عزوجل نے ہر شریعت میں زنا کو حرام ٹھہرایا اور یہ ایسا قطعی حرام فعل ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کے حلال ہونے کی تمنا کرے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا چنانچہ ہندیہ میں ہے ”رجل تمنى أن لم يحرم الله الخمر لا يكفر ولو تمنى أن لم يحرم الله

زنا کے حرام ہونے کی حکمتیں

صید الخاطر میں ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی (المتوفی 597ھ) فرماتے ہیں ”كل المعاصی قبیحة و بعضها أقیح من بعض فإن الزنا من أقیح الذنوب فإنه یفسد الفرش و یغیر الأنساب“ ترجمہ: ہر گناہ فبیح ہے اور بعض گناہ زیادہ فبیح ہوتے ہیں۔ بے شک زنا دیگر گناہوں سے زیادہ فبیح ہے کہ زنا میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالتا ہے اور نسب کو خراب کرتا ہے۔ (صید الخاطر، صفحہ 293، دار القلم، دمشق)

زنا کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا ذات اور معاشرے کی بگاڑ کا سبب ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:-

☆ اللہ عزوجل نے انسانی افزائش نسل کے لئے نکاح جیسا پاکیزہ راستہ ہدایت فرمایا۔ اگر نکاح کی جگہ لوگ زنا سے بچے پیدا کریں گے تو انساب ضائع ہو جائیں گے، نہ اقوام رہیں گی، نہ قبائل اور نہ رشتہ دار و خاندان، سب تعارف ختم ہو جائے جس کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

(سورة الحجرات، سورة 49، آیت 13)

☆ اس میں دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے، جس خاندان کی لڑکی یا لڑکے کا ایسا واقعہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔

☆ میاں بیوی میں محبت و رشتہ کو برقرار رکھنے کے لئے زنا کو حرام کیا گیا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی زنا کا مرتکب ہوگا تو یا طلاق ہوگی یا دونوں میں شدید نفرت پھیل جائے گی یا ایک کی زنا کرنے پر دوسرا بھی زنا کی طرف چل پڑتا ہے۔

☆ زنا کے حرام ہونے میں نسل کی حفاظت ہے کہ زانیہ کو اپنے بچوں اور شوہر سے زیادہ اپنا عاشق پیارا ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ دیتی ہے، اسی طرح زانی مرد کا حال ہوتا ہے۔

☆ زنا سے پیدا ہونے والے حرامی بچوں میں اخلاقیات اور رشتوں کا پاس نہیں ہوتا اور ایسے بچے ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور معاشرہ انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔

☆ زنا فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے کہ کیونکہ زانی اور زانیہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں کا مقصد اپنے محبوب کو راضی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جتنا ہو سکے خرچ کرتے ہیں، کام کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی بلکہ رنگینی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھے بھلے لوگ فقیر بن جاتے ہیں اور سب کچھ محبوب کی قدموں پر نچھاور کر کے دنیا و آخرت میں فقیر بن جاتے ہیں۔

☆ جس عورت سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہوگی بعد میں اس سے نکاح کیا لیکن بچہ نکاح کے چھ ماہ سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا نسب مرد کی طرف منسوب نہیں ہوگا، لیکن لوگ اسے اپنا بچہ ہی سمجھتے ہیں اور وارثت میں دیگر بچوں کی طرح اسے بھی شریک کرتے ہیں، محارم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس بچے کا غلط نسب چل پڑتا ہے جو نسل در نسل جاری رہتا ہے۔

☆ الغرض زنا کی حرام ہونے میں کئی حکمتیں ہے کہ چند منٹ کا مزہ کئی تباہیوں کا موجب ہے۔ موارد الظمان لدرروس الزمان میں ہے ”جرم الزنا تجد حلاوة فتنفسد كحل من اتصل بها“ ترجمہ: زنا کا جرم یہ ہے کہ اس سے حلاوت تول جاتی ہے لیکن اس سے متصل تمام چیزوں میں فساد آ جاتا ہے۔

(موارد الظمان لدرروس الزمان، خطب وحکم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان، جلد 5، صفحہ 96)

زنا کی تعریف

زنا کی دو صورتیں ہیں:۔ ایک وہ صورت ہے کہ جس میں زنا کا فقط نام استعمال کیا جاتا ہے اس پر کوئی حد نہیں ہوتی ہاں گناہ ضرور ہے جیسے احادیث میں بدنکا ہی کو آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے۔ اسے مجازی طور پر زنا کہا جاتا ہے۔ فیض القدير شرح الجامع الصغير میں زین الدین محمد المدعو بعد الروف المناوی القاهری (المتوفى 1031ھ) فرماتے ہیں ”فإطلاق الزنا العام على زنا العين والرجل واليد والفم مجاز“ ترجمہ: زنا کا اطلاق عام طور پر آنکھ، ہاتھ اور پاؤں پر مجازی طور پر ہوتا ہے۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير، جلد 4، صفحہ 137، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زنا جس پر حد جاری ہوتی ہے اس میں کچھ شرائط ہیں کہ ایک عاقل بالغ شخص کسی اجنبی عاقلہ بالغہ عورت سے دارالاسلام میں اس کے اگلے حصے میں اس طرح جماع کرے کہ مرد کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے۔ ردالمحتار میں ہے ”الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم، والموجب للحد بعض أنواعه“ ترجمہ: زنا لغت اور شرع میں ایک معنی رکھتا ہے

کہ مرد کا عورت کے اگلے حصے میں جماع کرنا ہے اور وہ عورت نہ اس کی ملکیت میں ہو اور نہ وہ جماع شبہ کے طور پر ہو۔ شرع نے زنا کا نام صرف اس موقع پر خاص نہیں جہاں حد جاری ہو بلکہ اسے عام (دیکھنے، چلنے، پکڑنے) میں بھی رکھا ہے۔ جو زنا حد کا موجب ہے اس کی بعض صورتیں ہیں۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحدود، جلد 4، صفحہ 5، دار الفکر، بیروت)

در مختار میں ہے ”الزنا الموجب للحد (وطء) وهو إدخال قدر حشفة من

ذکر (مکلف) (ناطق) (طائع فی قبل مشتہاة) (خال عن ملکہ) (وشبہتہ) (فی دار الإسلام) لأنه لا حد بالزنا فی دار الحرب ملخصاً“ ترجمہ: وہ زنا جس میں حد واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ مرد کا عورت مشتہاة کے آگے کے مقام میں بطور حرام بقدر حشفہ دخول کرنا اور وہ عورت نہ اس کی زوجہ ہونہ باندی نہ ان دونوں کا شبہ ہو اور وہ وطی کرنے والا مکلف ہو اور گو نگانہ ہو اور مجبور نہ کیا گیا ہو۔ دارالاسلام میں ہو اسلئے کہ دار الحرب میں زنا کی حد نہیں (یعنی زنا کا گناہ ہے لیکن زنا کی حد دارالاسلام میں لگے گی)۔

(در مختار مع رد المحتار، کتاب الحدود، جلد 4، صفحہ 4، دار الفکر، بیروت)

زنا کی مختلف صورتیں

درج ذیل صورتوں میں بھی زنا کا وقوع پایا جاتا ہے اگرچہ اس کے احکام میں کچھ فرق ہوتا ہے:۔

☆ تین طلاقوں کے باوجود بیوی کو بغیر حلالہ کے پاس رکھنا اگرچہ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی کر لیا ہو۔

☆ دوسرے کے نکاح میں ہوتے ہوئے یا عدت ہوتے ہوئے اس عورت سے

نکاح کر لینا اور صحبت کرنا بھی زنا ہے۔

☆ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جیسا کہ ہندوستان میں کئی مسلمان ایکٹرز ہندو مذہب کی عورتوں سے کرتے ہیں۔

☆ مسلمان عورت کا کسی ہندو، عیسائی یا یہودی سے نکاح کرنا۔

☆ جس کی بدنمذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہے اس سے نکاح بھی زنا ہے جیسے کوئی کلمہ گو ہونے اور نمازی ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہے، قرآن کو نامکمل کہے، جنت و دوزخ کو منکر ہو یا احادیث کا منکر ہو وغیرہ جیسا کہ آج کل کئی ایسے کفریہ عقائد کے حامل فرقتے ہیں۔

☆ کوئی کفر بولا یا کسی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جس کے سبب انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر بغیر تجدید ایمان و تجدید نکاح کے صحبت کرنا زنا ہے۔

☆ اپنی بیوی کو قصداً غیر عورت سمجھ کر صحبت کی یا عورت نے اپنے مرد کو غیر مرد سمجھ کر اس سے صحبت کی تو زنا کا گناہ ملے گا اگرچہ حقیقتاً صحبت میاں بیوی میں ہوئی ہے چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”زید نے محض اپنی منکوحہ بیوی کو امتحان کی غرض سے بھیس غیر آدمی کا بدل کر ملاقات کی، اس نے زید کو غیر مرد سمجھ کر زید سے جماع کی خواہش کی، زید نے بعد بسبب اراکار و خوف خدا ظاہر کر کے اس سے جماع کر لیا۔ زید اور اس کی عورت کے لئے شرعی حکم سے مطہع فرمایا جائے کہ وہ دونوں کسی سزا کے مستحق ہوئے یا نہیں؟“

جواباً آپ فرماتے ہیں: ”زید نے چونکہ اپنی عورت سے زوجہ سمجھ کر جماع کیا

ہے، اسلئے زید پر اس جماع کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کہ نہ غیر عورت سے جماع کیا نہ اسکو غیر سمجھا۔ البتہ اس کی عورت نے جو جماع کرایا اگرچہ شوہر سے کرایا مگر اس نے اپنے خیال میں غیر سے کرایا اور جانتے ہوئے حرام کا ارتکاب کیا۔ لہذا گنہگار ہوئی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں اگر کسی لکڑی پر کپڑا لٹکا دیا گیا ہے اور کوئی شخص رات میں اسے اجنبیہ عورت سمجھ کر اسکی طرف چلا اور اس پر بری نیت سے ہاتھ ڈالا اب معلوم ہوا کہ یہ لکڑی ہے عورت نہیں تو اس چلنے اور ہاتھ ڈالنے کا اس پر گناہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 168، دارالعلوم امجدیہ، کراچی)

اسی طرح اپنی بیوی سے صحبت کے دوران یہ تصور جمانا کہ وہ فلاں عورت سے جماع کر رہا ہے تو اگرچہ یہ زنا نہیں لیکن سخت ممنوع ہے۔

زنا کی شرعی سزا

زنا کی سزا شادی شدہ اور غیر شادی دونوں کے لئے الگ ہے۔ غیر شادی شدہ کے لئے سو کوڑے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔

(سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 2)

سور کوڑے سزا کی حکمت پر کلام کرتے ہوئے امام زلیعی تبیین الحقائق میں فرماتے ہیں ”(و فرقی علی بدنہ) ای فرق الضرب علی بدنہ وأعضائه لأن الجمع

فی عضو واحد قد يفضى إلى التلف والجلد زاجر وليس بمتلف ولأنه نال اللسنة في كل عضو منه فيعطى حظه من الضرب ولهذا يرحم إذا كان محصناً، یعنی زانی کے جسم و اعضاء کے متفرق حصوں پر کوڑے لگائے جائیں کہ ایک حصہ پر ہی کوڑے لگانا اس حصے کو تلف کرنا ہے جبکہ کوڑے لگانے میں مقصد زجر ہے نہ کہ تلف کرنا۔ (متفرق حصوں پر اس لئے کوڑے لگائے جائیں) کہ زنا کی لذت ان تمام اعضاء نے اٹھائی ہے اب وہ اس کی سزا بھی اٹھائیں، یہی وجہ ہے کہ شادی شدہ کے زنا کی سزا رجم کرنا ہے۔ (تبيين الحقائق، كتاب الحدود، جلد 3، صفحہ 164، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة)

شادی شدہ کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے کہ اُسے میدان میں لیجا کر اس قدر پتھر ماریں کہ مر جائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم فى كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا بعده“ ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی کتاب میں سنگسار کرنے کی سزا نہیں ملتی پھر لوگ اللہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ترک کر کے گمراہ ہو جائیں غور سے سنو سنگسار کرنا حق ہے بشرطیکہ مرد محسن (شادی شدہ) ہو اور گواہ قائم ہوں یا حمل ہو یا اعتراف زنا ہو اور میں نے یہ پڑھا ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو ضرور سنگسار کرو اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے سنگسار کیا اور ہم نے بھی

سنگسار کیا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب الرجم، جلد 2، صفحہ 853، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

اگر کوئی معاذ اللہ محرم عورت جیسے ماں، بہن، بیٹی سے زنا کرے تو اس کی سزا سو کوڑے یا رجم نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے کہ حاکم اسلام جو مناسب سمجھے اسے سزا دیدے، اگر حاکم اسلام قتل بھی کر دے تو جائز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودى، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرّم فاقتلوه“ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو یہودی کہہ کر پکارے تو اُسے بیس (۲۰) کوڑے مارو اور مخنث کہہ کر پکارے تو بیس (۲۰) مارو اور اگر کوئی اپنے محارم سے زنا کرے تو اُسے قتل کر ڈالو۔

(سنن الترمذی، ابواب الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث، جلد 3، صفحہ 114، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

اس پر شرعی حد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ حد سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ حدود دو گنا ہوں سے پاک کرنے کے لئے رکھی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ محرمات ابدی یعنی ماں، بہن وغیرہ سے جو جان بوجھ کر نکاح اور صحبت کرے تو اس پر حد شرعی نہیں آتی۔ یہ مسئلہ ہدایہ، جلد نمبر 1، ص 496، کنز اردو، ص 175، ہدایہ مترجم فارسی، جلد 2، ص 34، میں ہے، آیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط؟“

جو اب فرماتے ہیں: ”گناہ تین قسم کے ہیں:-

ایک ہلکے کہ حد کی حد تک نہ پہنچے، جیسے اجنبیہ سے بوس و کنار، ان پر حد مقرر نہیں ہوگی کہ ان کی مقدار سے زیادہ ہے اور مولیٰ عزوجل اس سے پاک ہے کہ کسی مجرم کو اس کی حد جرم سے زیادہ سزا دے۔ ایسے گناہوں پر تعزیر رکھی جاتی ہے۔

دوسرے وہ انجسٹ درجہ کے گناہ کہ حد کی حد سے گزرے ہوئے ہیں جیسے صورتہ مذکورہ سوال۔ ان پر بھی حد نہیں رکھی جاتی کہ حد اس گناہ سے پاک کر دینے کی ہوتی ہے اور ایسا خبیث گناہ اس حد سے پاک نہیں ہوتا۔

تیسرے متوسط درجہ، ان پر حدود ہیں۔ اس کی نظیر پیشاب اور شراب، پیشاب شراب سے خبیث تر ہے کہ کبھی شریعت میں اس کی ایک بوند حلال یا طاہرہ ٹھہر سکی، بایں وجہ شراب پینے پر حد ہے اور پیشاب پینے پر حد نہیں، یونہی اجنبیہ سے زنا پر حد ہے اور محارم سے نکاح پر نہیں کہ وہ خبیث کام ہے جسے حد سنجال نہیں سکتی، واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 625، رضا فائونڈیشن، لاہور)

زبردستی زنا (Rape) کے متعلق احکام

عورت سے زبردستی زنا کیا گیا تو مرد پر حد ہے عورت پر نہیں۔ اگر مرد کو زنا کرنے پر مجبور کیا گیا تو مرد پر بھی حد نہیں ہے البتہ مرد گناہ گار ہوگا۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”إذا أكره الرجل على الزنا بامرأة فزنى بها لا حد عليه ويجب المهر على الزانى سواء كانت المرأة مكرهة على الزنا أو كانت طائعة والمرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها، والرجل آثم فى الإقدام على الزنا؛ لأن الزنا من المظالم، وأما المرأة إذا كانت مكرهة على الزنا هل تأثم. ذكر شيخ الإسلام فى شرحه فى باب الإكراه على الزنا أنها إن أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت فإنها

تأثم، وإن لم تمكن هى من الزنا وزنى بها لا إثم عليها وهذا كله إذا كان الإكراه بوعيد تلف، فإن كان الإكراه بوعيد سجن أو قيد فعلى الرجل الحد بلا خلاف، وأما المرأة فلا حد عليها ولكنها تأثم، ولو امتنع المكره عن الزنا حتى قتل فهو مأجور ملخصاً“ ترجمہ: اگر کسی شخص کو عورت سے زنا پر مجبور کیا اور مرد نے مجبوراً زنا کیا تو مرد پر حد نہیں ہوگی اور اس پر مہر واجب ہوگا برابر ہے کہ عورت کو بھی مجبور کیا گیا ہو یا اس کی رضا مندی ہو۔ اگر عورت کو زنا پر مجبور کیا گیا تو عورت پر حد نہیں اور مرد (مجبوراً بھی) زنا کا عمل کرنے کے سبب گناہ گار ہوا کہ زنا مظالم میں سے ہے۔ باقی یہ کہ عورت اگر زنا پر مجبور ہو تو گناہ گار ہوگی یا نہیں؟ تو شیخ الاسلام نے اپنی شرح زنا کے اکراہ کے باب میں ذکر کیا کہ اگر عورت کو مجبور کیا کہ اپنے نفس کو پیش کرے اور اس نے مجبوراً زنا کے لئے خود کو پیش کر دیا تو گناہ گار ہوگی اور اگر خود کو پیش نہیں کیا اور زبردستی اس سے زنا کیا گیا تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب زبردستی ایسی ہو جس میں جان یا کوئی عضو تلف کرنے پر ہوا اگر زبردستی یہ تھی کہ زنا نہ کیا تو جیل یا قید کر دیا جائے تو اس صورت میں مرد پر بلا خلاف حد ہوگی اور عورت پر اس صورت میں بھی حد نہیں ہوگی بلکہ عورت گناہ گار ہوگی۔ اگر زنا پر زبردستی کی گئی اور اس نے زنا نہیں کیا اور قتل کر دیا گیا تو ثواب کا مستحق ہوگا۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الاکراہ، الباب الثانی فیما یحل للمکره أن یفعل وما لا یحل، جلد 5، صفحہ 48، دار الفکر، بیروت)

اگر زبردستی میں جیل یا قید کی بھی دھمکی نہیں تھی فقط زبردستی کی گئی لیکن بعد میں عورت مان گئی تو عورت پر بھی حد ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”المرأة لو أكرهت فمكنت لم تحدد بالإجماع ومعنى المكرهة أن تكون مكرهة إلى وقت الإبلاج أما لو أكرهت حتى اضطجعت ثم مكنت قبل الإبلاج كانت مطاوعة

كذا فى خزنة الفتاوى ولو زنى مكره بمطوعة تحدد المطاوعة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى “ترجمہ: عورت پر زبردستی کی گئی اور اس نے اس حالت میں خود کو پیش کیا گیا تو بالا جماع عورت پر حد نہیں ہے۔ زبردستی کا معنی یہ ہے کہ دخول کے وقت تک زبردستی پائی جائے، اگر زبردستی کی گئی یہاں تک کہ اسے لٹا دیا گیا پھر دخول سے قبل رضامند ہوگئی تو عورت بھی مجرم ہے جیسا کہ خزائنہ الفتاویٰ میں ہے اور اگر عورت نے زبردستی مرد سے زنا کروایا تو حد عورت پر ہوگی امام ابوحنیفہ کی نزدیک۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الحدود، الباب الرابع فى الوطاء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبہ، جلد 2، صفحہ 150، دار الفکر، بیروت)

اگر زبردستی زنا میں عورت کی شرمگاہ اور پاخانہ کے مقام کو باہم ملا دیا تو مرد پر حد کے ساتھ ساتھ دیت بھی لازم ہوگی۔ المبسوط میں ہے ”رجل زنى بامرأة مستكرهة فأفضاها فعليه الحد للزنا فإن كانت تستمسك البول فعليه ثلث الدية، وإن كانت لا تستمسك البول فعليه كمال الدية؛ لأنه أفسد عليها عضوا لا ثانى له فى البدن، وهو ما يستمسك به البول۔۔۔۔۔ وإن طاعته فعليها الحد وليس عليه ضمان الجنایة لوجود الرضى منها فإن إذنها فيما دون النفس معتبر فى إسقاط الأرش، وكذلك إن كانت صبیة یجامع مثلها إلا أن رضاها هناك لا يعتبر فى إسقاط الأرش؛ لأنها لیست من أهل إسقاط حقها“ ترجمہ: مرد نے عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا اور اس کے پیشاب اور پاخانہ کے مقام کو ملا دیا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی اور اگر عورت پیشاب کو روک سکتی ہے تو مرد پر تہائی دیت بھی لازم ہوگی اور اگر عورت پیشاب کو روک نہیں سکتی تو مرد پر پوری دیت لازم ہوگی، اس لئے کہ مرد نے عورت کا وہ عضو ضائع کر دیا ہے جس کا بدن میں کوئی ثانی نہیں ہے یعنی وہ جس کے ذریعہ

پیشاب کو روکا جاتا ہے۔ اگر عورت زنا میں رضامند تھی تو عورت پر بھی حد ہوگی اور مرد پر (حد کے علاوہ) دیت نہیں ہوگی کہ عورت کی اجازت ہونے کے سبب، اس لئے کہ عورت کی اجازت اپنی جان کے علاوہ دیت ساقط کرنے میں معتبر ہے۔ اسی طرح مرد نے ایسی عمر کی بچی سے زبردستی کی جس عمر کی بچی سے صحبت ہو سکتی ہے (اور اس نے اس بچی کے دونوں مقام کو ملا دیا) تو مرد پر حد کے ساتھ دیت بھی ہوگی۔ ہاں اگر بچی رضامند تھی تب بھی دیت دینی ہوگی کہ بچی دیت کے حق کو ساقط کرنے کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔

(المبسوط، کتاب الحدود، شہد ثلاثہ نفر وامرأتان بالزنا، جلد 9، صفحہ 75، دار المعرفہ، بیروت)

عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوتی ہے۔ لہذا اوپر والے مسئلہ میں آزاد عورت کی مکمل دیت 50 اونٹ یا 500 دینار یا 5000 درہم ہوگی۔ تبیین الحقائق میں ہے ”وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة منه فعليه الحد دونها ولا مهر لها ثم ينظر فى الإفضاء فإن لم يستمسك بولها فعليه دية المرأة كاملة“ ترجمہ: اگر دعویٰ شبہہ نہ ہو اور عورت سے زبردستی زنا کیا گیا تو مرد پر حد ہوگی عورت پر نہیں اور عورت کے لئے مہرنہ ہوگا۔ پھر افضا کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر عورت پیشاب روک نہیں سکتی تو مرد پر مکمل عورت کی دیت ہوگی۔

(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، کتاب الحدود، جلد 3، صفحہ 186، المطبعة الكبرى الأميرية، القاہرہ)

یہ یاد رہے کہ عورت کی نصف دیت ہونا احادیث وفقہ سے ثابت ہے۔ الموسوعة الفقہیہ میں ہے ”قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل؛ لما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل ولأنها فى الشهادة والميراث على

النصف من الرجل فكذلك في الدية“ ترجمہ: ابن منذر اور ابن عبد البر نے فرمایا: اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے۔ کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے۔ اسلئے کہ عورت شہادت، میراث میں مرد سے نصف ہے اسی طرح دیت میں ہوگی۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 21، صفحہ 59، دار السلاسل، الكويت)

چھوٹی بچی سے زنا

مرد بالغ نے چھوٹی بچی سے زبردستی زنا کیا تو اس پر حد ہے اور اگر عورت بالغ نے چھوٹے بچے سے زبردستی زنا کروایا تو عورت گناہ گار ہوئی، لیکن عورت پر حد نہیں۔ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ”والبالغة العاقلة إذا دعت صبيا فجامعها لا حد عليها علمت بالحرمة أو لم تعلم و عليها العدة و لا مهر لها و البالغ الصحيح إذا زنى بصبية أو مجنوننة أو نائمة عليه الحد و لا حد عليها“ ترجمہ: اگر عاقلہ بالغہ عورت نے چھوٹے بچے سے مجامعت کی تو اس عورت پر حد نہیں، برابر ہے کہ وہ اس فعل کی حرمت کو جانتی ہو یا نہ جانتی ہو اور اس عورت پر عدت ہوگی اور اس کے لئے مہرنہ ہوگا۔ صحیح بالغ شخص نے اگر چھوٹی بچی یا پاگل عورت یا سوئی ہوئی عورت سے زنا کیا تو اس مرد پر حد ہے عورت پر حد نہیں ہوگی۔

(فتاویٰ قاضیخان علی ہامش الہندیہ، کتاب الحدود، جلد 3، صفحہ 468، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

اگر بہت چھوٹی بچی ہے جو صحبت کے متحمل نہیں جیسے پانچ چھ سال کی بچی تو اس صورت میں حد نہیں تعزیر ہوگی اور اگر بچی سے زنا کیا اور اس کی شرمگاہ اور پاخانہ کے مقام کو ملا دیا (یعنی شرمگاہ پھٹ گئی) تو اس صورت میں دیت دینا ہوگی۔ لسان الحکام فی معرفتہ

الأحكام میں احمد بن محمد الحکمی (المتوفی 882ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”رجل زنى بصغيرة لا تتحمل الجماع فأفضاها لا حد عليه في قولهم جميعا ثم ينظر في الإفضاء إن كانت تستمسك البول كان عليه بالوطء وثلث الدية بالإفضاء وإن كانت لا تستمسك البول كان عليه جميع الدية“ ترجمہ: مرد نے ایسی چھوٹی بچی سے زبردستی زنا کیا جو جماع کی متحمل نہیں اور مرد نے اس بچی کے دونوں مقام کو ملا دیا تو مرد پر تمام فقہاء کے قول کے مطابق حد نہیں ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر بچی پیشاب کو روک سکتی ہے تو مرد پر وطی کی سزا کے ساتھ تہائی دیت ہوگی اور اگر پیشاب کو نہیں روک سکتی تو مکمل دیت دینا ہوگی۔

(لسان الحکام فی معرفة الأحكام، فصل فی المسألة المتعلقة بالحدود، صفحہ 398، البانی الحلبي، القاهرة)

متعہ اور اس کی سزا

متعہ یعنی مرد عورت کو پیسے دے کر کہے میں تجھ کو ایک ہزار روپیہ دیتا ہوں جس کے بدلے میں تجھ سے ایک دن یا مہینہ یا جو طے پائے صحبت کروں گا۔ متعہ حرام ہے اور بخاری مسلم سمیت کئی احادیث میں اس کی حرمت واضح ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن علی بن أبي طالب رضی اللہ عنہ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسانية“ ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے خیبر کے دن عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خيبر، جلد 5، صفحہ 135، دار طوق النجاة، مصر)

اگر کوئی متعہ کرے تو اس پر شرعی حد تو نہیں البتہ اس پر تعزیر ہوگی چنانچہ الموسوعة

الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”ذہب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة -- بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية“ ترجمہ: جمہور فقہاء، حنفیہ، حنابلہ، اور مالکیہ مذہب پر اور شافعیہ کے صحیح قول پر اس طرف گئے ہیں کہ جس نے نکاح متعہ کیا اس پر حد شرعی نہیں بلکہ اس پر تعزیر ہے اگر اس کی حرمت کو جاننے کے باوجود اس گناہ کا ارتکاب کرے تو۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 41، صفحہ 341، طبع الوزارة)

لہذا متعہ کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والوں کو تعزیراً سزا دی جائے گی۔

لواطت کی سزا

قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔

(سورة الحجر، سورة 15، آیت 74)

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں روح المعانی میں لکھتے ہیں ”جاء فی بعض الآثار أنه خسف بالمقیمین منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشدأهم حتى إن تاجرا منهم كان في الحرم فوقف له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه“ ترجمہ: بعض آثار میں آیا ہے کہ (قوم لوط اس طرح ہلاک کی گئی) کہ جو مقیم لوگ تھے انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا اور مسافروں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ قوم لوط کا ایک تاجر حرم پاک میں تھا تو اس کے حصے کا پتھر چالیس دن تک ہوا میں معلق رہا یہاں تک کہ جو وہ شخص تجارت سے فارغ ہوا اور حرم پاک

سے باہر آیا تو اسے آکر لگا۔ (روح المعانی، جلد 4، صفحہ 409، دار الکتب العلمیہ، بیروت) لواطت پر کوئی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے احادیث و آثار میں اس کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جسے تم قوم لوط والا عمل (یعنی لواطت کرتے) پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔

(سنن الترمذی، باب ما جاء في حد اللوطي، جلد 3، صفحہ 109، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

السنن الکبریٰ میں ہے ”عن القاسم بن الوليد، عن بعض قومه أن علياً رضي الله عنه رجم لوطياً“ ترجمہ: حضرت قاسم بن ولید رحمۃ اللہ علیہ اپنی بعض قوم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لواطت کرنے والے کو سنگسار کیا۔

(السنن الكبرى، باب ما جاء في حد اللوطي، جلد 8، صفحہ 405، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

السنن الکبریٰ کی دوسری روایت میں ہے ”قال أبو نصره سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمي به منكسأ، ثم يتبع الحجارة“ ترجمہ: حضرت ابو نصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لواطت کی سزا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے آبادی کی سب سے اونچی جگہ سے اوندھانچے گرا دیا جائے اور پھر اس پر پتھر مارے جائیں۔

(السنن الكبرى، باب ما جاء في حد اللوطي، جلد 8، صفحہ 405، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان تمام روایات پر عمل کرتے ہوئے فقہائے احناف نے فرمایا ہے کہ حاکم اسلام لواطت کرنے اور کروانے والے کو جو سزا مناسب سمجھے دے سکتا ہے، اگر کوئی شخص لواطت

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ أن يؤکل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم کسی کو چوپائے کے ساتھ وطی کرتے پاؤ تو اس چوپائے اور وطی کرنے والے کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ جانور کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ نہیں سنی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکروہ جانا ایسے جانور کا گوشت کھانا یا اس سے نفع لینا جس کے ساتھ یہ فعل کیا گیا ہے۔

(الترمذی، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، جلد 3، صفحہ 108، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

اگر کسی کے بکری وغیرہ سے یہ فعل کیا جائے تو مالک سے کہا جائے گا کہ لواطت کرنے والے کو یہ جانور دید و اور اپنے جانور کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس سے لے لو، لواطت کرنے والا اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت جلادے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”رجل وطء بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت البهيمه للواطء يقال له اذبحها واحرقها وإن لم تكن البهيمه للواطء كان لصاحبها أن يدفعها إلى الوطاء بالقيمة ثم يذبحها الوطاء ويحرق إن لم تكن مأكولة اللحم وإن كانت مأكولة اللحم تذبح ولا تحرق كذا في فتاوى قاضی خان. وفي الأجناس عن أصحابنا رحمهم الله تعالى تذبح وتحرق على وجه الاستحسان“ ترجمہ: آدمی نے چوپائے سے وطی کی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر وہ چوپایا وطی کرنے والے کا اپنا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اس کو ذبح کرے اور اس کے گوشت کو آگ لگا دے۔ اگر چوپایا کسی غیر کا ہے تو مالک کو کہا جائے گا اپنا چوپایا سے دید و اور اسے اس کی قیمت لے لو، پھر

سے باز نہیں آتا تو حاکم اسلام اسے تعزیراً قتل بھی کر سکتا ہے اور جو لواطت کو جائز سمجھے وہ کافر ہو جائے گا۔ بہار شریعت میں ہے: ”اغلام یعنی پیچھے کے مقام میں وطی کی تو اس کی سزا یہ ہے اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اُسے اوندھا کر کے گرائیں اور اُس پر پتھر برسائیں یا اُسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے یا چند بار ایسا کیا ہو تو بادشاہ اسلام اُسے قتل کر ڈالے۔ الغرض یہ فعل نہایت خبیث ہے بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے اسی وجہ سے اس میں حد نہیں کہ بعضوں کے نزدیک حد قائم کرنے سے اُس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے اور یہ اتنا برا ہے کہ جب تک توبہ خالص نہ ہو اس میں پاکی نہ ہوگی اور اغلام کو حلال جاننے والا کافر ہے یہی مذہب جمہور ہے۔

(بہار شریعت، جلد 2، حصہ 9، صفحہ 380، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

جانور سے بدکاری کرنے کی سزا

جانور سے بدکاری کرنے پر کوئی حد نہیں ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے ”عن ابن عباس فی الذی يقع علی البهيمه قال: ليس عليه حد“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جانور سے وطی کرنے کے متعلق فرمایا کہ وطی کرنے والے پر حد نہیں ہے۔

(المصنف، کتاب الطلاق، باب الذی یأتی البهيمه، جلد 7، صفحہ 363، المجلس العلمی، الہند)

جانور سے وطی کرنے والے کو تعزیراً سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی اس گندے فعل سے باز نہیں آتا تو حاکم اسلام اسے قتل بھی کروا سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمه فاقتلوه، واقتلوا البهيمه، فليل لابن عباس: ما شأن البهيمه؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول

وطی کرنے والا اس جانور کو ذبح کر کے آگ لگا دے۔ یہ آگ لگانا اس جانور کے لئے ہے جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اگر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اسے آگ نہیں لگائی جائے گی جیسا کہ قاضی خان میں ہے اور اجناس میں ہمارے اصحاب سے مروی ہے کہ کھائے جانے والے جانور کو بھی ذبح کیا جائے گا اور گوشت کو آگ لگا دی جائے گی استخسانا۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی والعشرون فیما یسع من جراحات بنی آدم والحيوانات، جلد 5، صفحہ 361، دار الفکر، بیروت)

اگر کسی نے جانور کو ذبح نہیں کیا اور آگ لگا دیا یا حلال جانور جیسے بکری وغیرہ کو ذبح کر کے اس گوشت جلا یا نہیں کھالیا تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اس گوشت کو جلا دیا جائے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”أما بهذا الفعل لا یحرم أكل الحيوان المأكول كذا فی خزنة الفتاویٰ“ ترجمہ: باقی یہ کہ جانور کے ساتھ وطی کرنے پر وہ حلال جانور حرام نہیں ہوتا جیسا کہ خزائنہ الفتاویٰ ہے میں ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی والعشرون فیما یسع من جراحات بنی آدم والحيوانات، جلد 5، صفحہ 361، دار الفکر، بیروت)

المبسوط للسرخسی میں ہے ”(قال) فی الأصل بلغنا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ أنه أتى برجل أتى بهيمة فلم یحده وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار، وهذا لیس بواجب عندنا وتأویلہ أنه فعل ذلك کی لا یعیر الرجل به إذا كانت البهيمه باقية“ ترجمہ: اصل میں فرمایا کہ ہم تک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پہنچی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے جانور سے وطی کی تھی تو آپ نے اس آدمی پر کوئی حد نہیں لگائی اور جانور کے متعلق حکم دیا کہ اسے ذبح کر کے اس آگ لگا دی جائے۔ اور یہ عمل ہمارے (احناف) کے نزدیک واجب

نہیں ہے۔ جانور کو بعد ذبح جلانے میں حکمت یہ ہے کہ آدمی اس زندہ جانور کو دیکھ کر عار محسوس نہ کرے۔

(المبسوط، کتاب الحدود، واطء البهيمه، جلد 9، صفحہ 102، دار المعرفه، بیروت)

ایک حکمت جانور ذبح کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس جانور کو دیکھ کر اس بُرے فعل کو یاد نہ کریں کہ اس جانور سے فلاں نے بد فعلی کی ہے۔

مرد کی طرح عورت کا بھی کسی جانور سے بد فعلی کروانا ناجائز و حرام ہے اور عورت پر تعزیر ہے۔

بیوی کی دبر (پچھلے مقام) میں جماع

اپنی بیوی کی دبر میں وطی کرنا اور بیوی کا بھی ایسے فعل پر راضی ہونا ناجائز و حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو تعزیراً سزا دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے ”عن أبی هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته فی دبرها“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ جو اپنی عورت کی دبر میں جماع کرے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی جامع النکاح، جلد 2، صفحہ 249، المكتبة العصرية، بیروت)

ایک حدیث پاک میں اسے لواطت صغریٰ یعنی چھوٹے درجے کی لواطت قرار دیا گیا ہے چنانچہ مسند الشامیین میں ہے ”عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فی الرجل یغشى المرأة فی دبرها: هي اللوطية الصغرى“ ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے جد سے روایت کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا عورت کی دبر میں جماع کرنے کے متعلق فرمایا کہ یہ لو اوطت صغریٰ ہے۔

(مسند الشامیین، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، جلد 4، صفحہ 64، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت ابودرداء نے فرمایا ایسا کوئی کافر ہی کرے گا چنانچہ تفسیر طبری میں ہے ”عن قتادة قال سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أديارهن، فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر“ ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتوں کی دبر میں جماع کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا کرتا ہے سوائے کافر کے۔

(جامع البيان في تأويل القرآن، جلد 4، صفحہ 407، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یاد رہے کہ قرآن پاک میں جو ہے ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنۡسٰى سِتۡمُكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔

اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی پیٹھ میں جماع کرنا بھی جائز ہے بلکہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جس انداز سے چاہو بیوی کے اگلے حصے میں جماع کرو، لیٹ کر کرو یا پیٹھ یا کھڑے ہو کر یا پیچھے سے آ کر اگلے حصے میں جماع کرو۔ یعنی صحبت ہو اگلے حصے ہی میں انداز جو مرضی ہو۔ دراصل اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر پیچھے سے آ کر عورت کے اگلے حصے میں صحبت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس نظریہ کی تردید کی گئی چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها، في قبلها، ثم حملت، كان ولدها أحوال قال فأنزلت ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا

حَرْثِكُمْ اَنۡى سِتۡمُكُمْ﴾“ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب آدمی اپنی عورت کے پیچھے سے اس کے اگلے مقام میں وطی کرے اور عورت حاملہ ہو جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتی کو جیسے چاہو آؤ۔“

(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب جواز جماعہ امرأته فی قبلہا، من قدامہا، ومن ورائہا من غیر تعرض للدبر، جلد 2، صفحہ 1058، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مسند احمد کی حدیث پاک میں ہے ”عن ابن عباس، قال: أنزلت هذه الآية، ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتها على كل حال إذا كان في الفرج“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہ آیت: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں“ اس وقت نازل ہوئی جب انصار کے لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (پیچھے سے آ کر بیوی کے اگلے حصے میں جماع کرنے کے متعلق) مسئلہ پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح مرضی کرو جبکہ صرف اگلے حصے میں جماع ہو۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، جلد 4، صفحہ 236، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پھر اس آیت کے الفاظ پر بھی غور کیا جائے تو مطلب واضح ہوتا ہے کہ بیوی کو کھیتی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ بیوی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے اور نسل عورت کے اگلے حصے سے جماع کرنے پر بڑھتی ہے نہ کہ پچھلے حصے میں جماع کرنے سے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت ہے ”عن ابن عباس قوله ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنۡى سِتۡمُكُمْ﴾ یعنی

بالحرث الفرَج يقول: تأتيه كيف شئت، مستقبلةً ومستدبرةً وعلى أي ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرَج إلى غيره، وهو قوله ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ “ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کا فرمان: ”پس تم اپنی کھیتی کو جیسے چاہو آؤ“ یعنی کھیتی فرج ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس آگے پیچھے جیسے چاہو آؤ جبکہ فرج سے تجاوز نہ کرو یہی اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے: تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔

(جامع البيان في تأويل القرآن، جلد 4، صفحہ 398، مؤسسة الرسالة، بیروت)

تنبیہ ضروری

لوگوں میں مشہور ہے کہ بیوی کی پیٹھ میں جماع کرنے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے جبکہ شرعی طور پر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ ہاں اگر کوئی اسے معاذ اللہ جائز سمجھ کر کرے تو اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو عورت سے حالت حیض میں جماع کرے یا اس کی پیٹھ میں جماع کرے یا کسی کا ہن (نجومی) کے پاس آئے اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کی تصدیق کرے تو اس نے کفر (انکار) کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب النہی عن إتيان الحائض، جلد 1، صفحہ 201، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

محدثین و فقہائے کرام نے اس حدیث کے تحت یہی فرمایا ہے کہ جو اسے جائز سمجھے اس پر حکم کفر ہے چنانچہ فتح الباری لابن رجب میں ہے ”من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر، على المستحل لذلك“ ترجمہ: جو عورت سے حالت حیض میں یا اس کی پیٹھ سے جماع کرے اس نے کفر کیا، یعنی اسے حلال جان کر کرے۔

(فتح الباری لابن رجب، کتاب الايمان، جلد 1، صفحہ 139، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں علی بن (سلطان) محمد القاری (المتوفى 1014ھ) لکھتے ہیں ”فقد كفر بما أنزل على محمد) أي: إن اعتقد حله“ ترجمہ: تحقیق اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یعنی اگر (بیوی کی دبر میں جماع کو) حلال جانتا ہو۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جلد 2، صفحہ 495، دار الفكر، بيروت)

حاشية السندی علی سنن ابن ماجہ میں محمد بن عبد البہادی التتوی السندی (المتوفى 1138ھ) لکھتے ہیں ”فقد كفر قيل هذا إذا كان مستحلاً“ ترجمہ: تحقیق اس نے کفر کیا۔ کہا گیا کہ یہ اس صورت میں ہے جب اسے حلال جانے۔

(حاشية السندی علی سنن ابن ماجہ، صفحہ 220، دار الجليل، بيروت)

فيض القدير شرح الجامع الصغير میں زین الدین المناوی القاہری (المتوفى 1031ھ) لکھتے ہیں ”استحلها فقد كفر ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة“ ترجمہ: اسے حلال جانا تو تحقیق اس نے کفر کیا اور جو اسے حلال نہیں سمجھتا تو ایسا شخص کفرانِ نعمت کا مرتکب ہوا۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير، جلد 6، صفحہ 23، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

اسی طرح المیسوط للسرخسی میں ہے ”تأويل الحديث الذي روى من أتى

امراته الحائض أو أتى امرأته في غير مأتاها فقد كفر بما أنزل على محمد يعني إذا استحل ذلك“

(المبسوط، كتاب الحدود، أتى امرأة أجنبية في دبرها، جلد 9، صفحہ 77، دار المعرفة، بیروت)

بعض فقہاء نے اس کے برعکس کہا چنانچہ ردالمحتار میں ہے ”(قولہ يكفر مستحلها) قدم الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر، ثم وفق بما في التتارخانية عن السراجية: اللواطه بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام، إلا أنه لو استحله لا يكفر قاله حسام الدين اهـ أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطه بأجنبي، بخلاف غيره“ ترجمہ: لواطت کو حلال سمجھنے والے کی تکفیر کا قول: پہلے شارح نے حیض کے باب میں حیض کی حالت میں وطی کرنے اور دبر میں جماع کرنے کو حلال جاننے والے کے کفر کے متعلق اختلاف ذکر کیا۔ پھر سراجیہ سے تارخانیہ میں موجود اس عبارت سے تطبیق بیان کی کہ اپنے غلام، لونڈی اور بیوی سے لواطت حرام ہے مگر جو اسے حلال جانتا ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہ امام حسام الدین نے کہا ہے۔ کفر کا قول اس پر محمول کیا جائے گا جب لواطت کو کسی اجنبی کے ساتھ حلال جانے بخلاف غیر یعنی لونڈی، غلام اور بیوی کے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحدود، جلد 4، صفحہ 28، دار الفکر، بیروت)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر، وكذا لو استحل اللواطه من امرأته وفي النوادر عن محمد رحمه الله تعالى لا يكفر في المسألتين هو الصحيح“ ترجمہ: اگر اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں جماع کو حلال جانا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اسی طرح اپنی بیوی سے لواطت کو جائز جانا۔ نوادر میں امام محمد سے ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی صحیح ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، جلد 2، صفحہ 273، دار الفکر، بیروت)

لہذا بیوی کی پیٹھ میں جماع کو جائز سمجھنے والے کو اگر چہ کافر نہیں کہا جائے گا لیکن چونکہ کئی فقہاء کے نزدیک ایسا کرنا کفر ہے لہذا ایسے شخص کو توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا کیونکہ کفر اتفاقی ہو یا اختلافی ہر صورت میں توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح کا حکم ہوتا ہے جیسا کہ درمختار میں ہے ”مایدکون کفرا اتفاقا یبطل العمل والنکاح واولاده اولاد زنا و مافیہ خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبه (ای تجدید الاسلام) و تجدید النکاح (ای احتیاطاً) مزیداً من الشامی بین الہلالین ترجمہ: جس بات کے کفر ہونے میں علماء متفق ہوں اس سے اعمال اور نکاح باطل ہو جاتا ہے اور اولاد، اولاد زنا قرار پاتی ہے، اور جس بات کے کفر ہونے میں اختلاف ہو وہاں احتیاطاً توبہ استغفار یعنی تجدید اسلام، اور تجدید نکاح کا حکم کیا جائے گا۔ بریکٹ کے اندر کی عبارت علامہ شامی کی ہے۔“

(درمختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، جلد 4، صفحہ 246-7، دار الفکر، بیروت)

اورل سیکس Oral Sex

عورت کا مرد کی شرمگاہ کو منہ میں لینا اور مرد کا عورت کی شرمگاہ کو منہ میں لینا ناجائز و گناہ ہے اور ایسا کرنے پر تعزیر ہے۔ شریعت مطہرہ نے منہ کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا ہے چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن علی بن ابی طالب، قال: إن أفواہکم طرق للقرآن، فطیبوها بالسواک“ ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تمہارے منہ قرآن کا راستہ ہیں تو اپنے منہ کو مسواک سے پاک صاف رکھو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب السواک، جلد 1، صفحہ 106، دار احیاء الکتب

العربیۃ، الحلبي)

الزہد والرقائق لابن المبارک میں ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن المبارک (البتونی 181ھ) روایت کرتے ہیں ”عن أبي عبد الرحمن السلمی قال: أمر علی بالسواك، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلى، قام الملك خلفه يستمع القرآن، فلا يزال عجبه بالقرآن يدنيه منه، حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم“ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن السلمی نے فرمایا کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک بندہ جب مسواک کرتا ہے، پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جو اس کا قرآن سنتا ہے، وہ فرشتہ قرآن سن کر اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ بندے کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس بندے کے منہ سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا اپنے منہ کو پاک رکھو۔

(الزہد والرقائق لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ عز وجل، صفحہ 435، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

لہذا اس منہ کو ذکر اللہ کی بجائے گندگی چاٹنے میں لگانا خبیث عمل ہے جو قرآن وحدیث کی رو سے ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ﴿وَيُبْحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔

(سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 157)

اسی آیت کی روشنی میں فقہاء کرام نے کئی چیزوں جیسے حشرات الارض اور بعض

جانوروں وغیرہ کو حرام فرمایا یہاں تک کہ حلال جانوروں کے بھی بعض حصوں کو حرام فرمایا چنانچہ اس آیت کے تحت تفسیر خازن اور تفسیر روح البیان میں ہے ”ہو کل ما يستخبثه الطبع وتستفذرہ النفس“ ترجمہ: اور اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جس کو فطرت سلیمہ برا سمجھے۔

(لباب التأویل فی معانی التنزیل، جلد 2، صفحہ 258، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

کتب فقہ میں اس فعل کے مکروہ تحریمی ہونے کی صراحت ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”إذا ادخل الرجل ذكره في فم امرء ته قد قيل يكره“ ترجمہ: کہا گیا مرد کا اپنی عورت کے منہ میں اپنا عضو داخل کرنا مکروہ ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، جلد 5، صفحہ 372، دارالفکر، بیروت)

الفقہ الاسلامی وادلته میں ہے ”وضع الذکر فی فم المرأة ونحوه، مما جاءنا من شذوذ الغربیین، فیکون ذلك حراماً لثبوت ضرره وقبحه شرعاً وذوقاً“ ترجمہ: مرد کا عورت کے منہ میں اپنی شرمگاہ رکھنا اور اس طرح کی اور عجیب و غریب (گندی) حرکات جن کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں تو یہ حرکات حرام ہیں، ضرر کے ثابت ہونے اور شرعاً ذوقاً قبیح ہونے کی وجہ سے۔

(الفقہ الاسلامی وادلته، جلد 4، صفحہ 191، دارالفکر، بیروت)

المحیط البرہانی میں اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ منہ تلاوت قرآن پاک کے لئے ہے چنانچہ لکھا ہے ”إذا أدخل الرجل ذكره فم امرأته فقد قيل: يكره؛ لأنه موضع قراءة القرآن، فلا يليق به إدخال الذكر فيه“ ترجمہ: اگر مرد اپنی شرمگاہ عورت کے منہ میں داخل کرے تو کہا گیا کہ یہ مکروہ ہے کہ منہ قرآن کی جگہ ہے اور شرمگاہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے منہ میں رکھا جائے۔

(المحیط البرہانی، کتاب الاستحسان و الکراہیۃ، الفصل الثانی والثلاثون فی

and human papillomavirus can take hold in parts of the oral cavity during sex with infected partners and that the oral contact can infect the genitals, too. HPV is a particularly scurrilous threat, since it incubates silently in the back of the mouth and is now linked to a dangerous form of throat cancer in both men and women similar to the one that arises in the cervix.

People Who Read This Also Read Wisconsin Cancels 'Sex Toys 101' Event 20340565 7 Factors That Foster Teen Virginity, Pledge or No Pledge 20502145 Mouth and Oropharynx Cancer Overview 20174601 7 Facts You Need to Know About HPV and Gardasil 20183931 Oral Sex a Factor in Oral Cancer Increase 20176653 Head and neck cancers, which can attack the mouth, nose, sinuses, and throat.

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اورل سیکس سیکس نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہے جو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ اورل سیکس جنسی خطرات سے بھی

المتفرقات، جلد 5، صفحہ 408، دار الکتب العلمیہ، بیروت

پھر شرمگاہ کو منہ میں لینے پر منی و مذی کا نکلنا بھی کسی حد تک یقینی ہوتا ہے اور یہ نجس چیز کو منہ میں لینا ہے جو کہ حرام ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے ”وذلك يقتضى تحريم كل الخبائث، والنجاسات خبائث، فوجب القول بتحريمها، الثالث أن الأمة مجمعة على حرمة تناول النجاسات“ ترجمہ: یہ آیت تمام نجس چیزوں کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور نجاست خبائث میں سے ہے تو یہ حکم نجاست کو حرام کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ امت کا نجاستوں کے کھانے کی حرمت پر اجماع ہے۔

(تفسیر کبیر، جلد 13، صفحہ 169، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

پھر طبی طور پر اورل سیکس کا بہت نقصان ہے کہ اس سے دیگر بیماریوں کے ساتھ منہ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے چنانچہ انٹرنیٹ پر ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کر کے کہا کہ اورل سیکس انتہائی نقصان دہ ہے۔ دو تحقیقات ملاحظہ ہوں:-

There's an argument out there that oral sex is not sex. For some grown-ups, it's a way to deny that they're cheating. To some young people, oral sex preserves virginity technically speaking and allows for what is perceived as risk-free sexual intimacy. From a medical perspective, however, this is sex and generally, as practiced, it's unsafe. People seem clueless that sexually transmitted diseases such as herpes, gonorrhea, chlamydia,

Kerstin Rosenquist, who headed the study, told Swedish news agency TT.HPV is a wart virus that causes many cervical cancers, including Comparing 132 endometrial cancer (in the uterus). patients with mouth cancer with a control group of 320 healthy people, Rosenquist found that 36 percent of the cancer patients were carriers of HPV while only one percent of the control group had the virus.

The main factors that contribute to mouth cancer, most commonly contracted by middle aged. اس عبارت کا خلاصہ ہے کہ سویڈش رپورٹ میں ہے کچھ کیس منہ کے کینسر کے پائے گئے ہیں جو کہ ایک وائرس جو اورل سیکس سے پھیلا ہے اس سے ہوئے ہیں۔ سویڈش کی میملو یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق اورل سیکس کے دوران جن لوگوں میں H.P.V داخل ہوا نہیں کافی چانس ہوتا ہے کہ منہ کا کینسر ہو جائے۔ اورل سیکس سے بچا جائے۔ H.P.V کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 132 مریض تھے جنہیں بچہ دانی اور منہ کا کینسر تھا۔ 36 فیصد میں H.P.V تھا۔ جبکہ 320 صحت مند افراد کا معائنہ کیا گیا تو صرف ایک فیصد میں H.P.V تھا۔ منہ کے کینسر والے زیادہ تر درمیانی عمر کے لوگ ہیں۔

(<http://www.fatwa-online.com/fataawa/marriage/sexualrelations/sre003/0030726.htm>)

خالی ہے اور کنوارہ پن بھی قائم رکھتا ہے۔ جبکہ یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میڈیکل نقطہ نظر سے اورل سیکس ایک سیکس ہے اور خطرناک ہے۔ لوگ اس سے لاعلم نظر آتے ہیں کہ جنسی طریقہ سے جو بیماری پھیلتی ہے جیسے C.C.H اور H.P.V منہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح منہ سے عضو تک جا سکتے ہیں۔ H.P.V خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ یہ منہ کے پچھلے حصہ میں نشوونما پاتا ہے اور گلے کے خطرناک کینسر کا موجب ہے۔ مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتا ہے اسی طرح بچہ دانی کے نچلے حصہ پر ہو سکتا ہے۔ اورل سیکس منہ کا کینسر کرتا ہے اور دماغ اور گردن کا کینسر بھی ہو سکتا ہے جو منہ، ناک اور گلے تک پھیل سکتا ہے۔

(www.health.usnews.com/articles/health/cancer)

دوسری جگہ لکھا ہے:

Certain cases of mouth cancer appear to be caused by a virus that can be contracted during oral sex, media reported, quoting a new Swedish study. People who contract a high-risk variety of the human papilloma virus, HPV, during oral sex are more likely to fall ill with mouth cancer, according to a study conducted at the Malmo University. Faculty of Odontology in southern Sweden. "You should avoid having oral sex," dentist and researcher

لہذا شرمگاہ کو منہ میں لینا شرعی طور کے علاوہ طبی طور پر درست نہیں ہے۔ بلا عذر شرعی عورت کا شوہر سے طلاق مانگنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ایما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة“ ترجمہ: جو عورت بے ضرورت شرعی خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی بو حرام ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، کراہیۃ الخلع للمرأة، جلد 1، صفحہ 662، دار احیاء الکتب العربیۃ، الحلبي)

لیکن اگر شوہر زبردستی عورت کی پیٹھ و منہ میں بد فعلی کرتا ہے تو عورت کا ایسے شوہر سے طلاق مانگنا جائز ہے۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے ”لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى والضرر“ ترجمہ: عورت کے پیٹھ میں جماع کرنے سے خود بخود طلاق نہیں ہو جاتی۔ البتہ ایسے موقع پر عورت کو قاضی کے ذریعے طلاق طلب کرنے کا حق ہے، بسبب ایذا اور ضرر کے۔

(الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد 9، صفحہ 88، دار الفکر، بیروت)

مردہ سے زنا

مردہ عورت سے وطی کرنا ناجائز و حرام ہے کبیرہ گناہ میں شامل ہے اور اسکی سزا تعزیر ہے۔ یعنی تعزیر اسے قید کیا جاسکتا ہے یا شہر بدر کیا جاسکتا ہے، لیکن زنا کی شرعی حد نہیں لگائی جاسکتی ہے البتہ حنا بلہ کے نزدیک ایسے شخص پر حد واجب ہے۔ الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الميتة، سواء أكانت في حياتها زوجته أم أجنبية عنه وعده ابن حجر الهيتمي من كبائر الإثم والفواحش لكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل على مذهبي أحدهما: للحنفية والشافعية في

الأصح والحنابلة في المعتمد، وهو عدم وجوب الحد على واطء الميتة، وذلك لأن وطء الميتة كلا ووطء، لوقوعه في عضو مستهلك، ولأن وطأها لا يشتهي، بل هو مما تنفر منه الطباع وتعافه الأنفس، فلا حاجة إلى شرع الزجر عنه بحد، والحد إنما يجب زجرا ولكن يجب تعزير الفاعل لهذه الفاحشة“ ترجمہ: فقہاء کرام کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ میت سے وطی کرنا حرام ہے، برابر ہے وہ میت زندگی میں اس کی زوجہ ہو یا اجنبیہ ہو اور ابن حجر ہیتمی نے میت کے ساتھ وطی کو کبیرہ فحش گناہ میں شمار کیا ہے۔ البتہ ایسا کرنے والے کی سزا میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب احناف، شوافع فی الاصح اور حنا بلہ کا معتمد یہ ہے کہ میت سے وطی کرنے والے پر زنا کی حد واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ زندہ کے ساتھ وطی کرنا نہیں ہے کہ یہ وطی ہلاک شدہ عضو میں واقع ہوئی ہے اور اس وطی میں لذت نہیں بلکہ طبیعت اس سے متنفر ہوتی ہے اور نفوس اس سے کراہت کرتے ہیں۔ تو شرعاً زجر کے طور پر حد جاری کرنے کی حاجت نہیں کہ حد تو زجرا ہی واجب ہوتی ہے۔ لیکن ایسا فحش فعل کرنے والے پر تعزیر واجب ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 44، صفحہ 31، طبع الوزارة)

مردہ عورت کے علاوہ اگر مردہ لڑکے سے بھی کوئی وطی کرتا ہے تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی۔

زنا کا ثبوت

شرعی طور پر زنا ثابوت ہونے کی دو صورتیں ہیں:۔ ایک صورت یہ ہے کہ چار عاقل و عادل مرد گواہ ہوں جو اپنی آنکھوں سے زنا دیکھیں۔ بغیر گواہی کے کسی پر زنا کا الزام لگانا ناجائز و گناہ ہے اور اس کی سزا اسی کوڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَالَّذِينَ

يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں۔

دوسری صورت زنا کا اعتراف کرنا ہے۔ صحیح مسلم اور شعب الایمان میں ہے ”عن یزید بن نعیم، عن أبیه، أن ماعزاً أتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه“ ترجمہ: حضرت یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ماعز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زنا کا چار مرتبہ اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔

(شعب الایمان للسیہقی، جلد 7، صفحہ 106، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان دونوں صورتوں کے بغیر زنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بغیر شرعی ثبوت کے محض قیاسات پر دوسروں کو زانی ٹھہرا دیتے ہیں اور کئی اسی طرح کے قیاسات کی بنیاد پر اپنی بیوی کو زانیہ ٹھہرا کر طلاق دے دیتے ہیں یہ سب غیر شرعی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ثبوت زنا کے لیے چار مرد عادل کا مشاہدہ ضرور کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے اس کا اندام اس کے بدن میں سرمہ دانی میں سلائی کی طرح دیکھا، یہ کہاں متصور! لوگ محض قرآن و قیاسات پر اڑا دیتے ہیں، اس پر اعتبار نہیں اور وہ سب شرعاً اسی کوڑے کے مستحق ہوتے ہیں۔ ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اللہ تعالیٰ انہیں فاسق فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو تو پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالنا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 423، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کا ذہن ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات صحبت کے دوران عورت سے Bleeding نہ ہو تو عورت کا کردار ٹھیک نہیں، اس نے پہلے سے زنا کر دیا ہے، جبکہ یہ نظریہ شرعاً درست نہیں ہے Bleeding نہ ہونا اس کے زانیہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عورت کی شرمگاہ میں ایک جھلی ہوتی ہے، اگر اس وقت سے پہلے وہ جھلی نہ پھٹی ہو اور جماع سے اس کا زوال ہو، جب تو خون آنا ظاہر ہے اور اگر پیشتر وہ زائل ہو چکی ہے تو اغلب یہ کہ خون نہ آئے اور ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں بھی آئے۔ مگر اس جھلی کا زائل ہونا علاوہ جماع کے دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثلاً کودنے یا گرنے یا بکثرت حیض آنے یا زخم ہو جانے سے کہ یہ سب بھی اس کے زوال کے سبب ہیں۔ لہذا اگر خون نہ آیا تو یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ اس نے زنا کیا ہے۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 2، صفحہ 21، مکتبہ رضویہ، کراچی)

DNA ٹیسٹ کا شرعی تجزیہ

ان بیان کئے گئے دو ثبوتوں کے علاوہ کسی تیسرے ثبوت سے زنا ثابت نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ آج کل کئی ڈاکٹرز و دیگر لوگ کہتے ہیں کہ DNA کے ذریعے زنا ثابت ہو سکتا ہے، اس لئے اس رپورٹ پر بھی زنا کی سزا دی جانے چاہئے۔ شرعاً DNA کی رپورٹ پر ہی کسی کو زانی ثابت نہیں کیا جاسکتا، ہاں ضمنی ثبوت کے طور پر اس رپورٹ کا استعمال ہو سکتا ہے اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ملزم اقرار کر لے تو اس کا جرم ثابت ہو سکتا ہے۔

آج کل کئی سیکولر ذہن کے لوگوں نے DNA کو اتنی بڑی حیثیت دے دی ہے کہ اس کے مقابل شرعی قانون کو نہیں مانتے بلکہ علماء کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ پھر

عجیب جہالت یہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ پر سزا بھی صرف زبردستی زنا پر ہو، اگر رضامندی ہو تو کوئی سزا نہیں ہونی چاہئے۔ یہاں مختصر DNA پر کلام پیش خدمت ہے:-

اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو قیامت تک رہنمائی کرنے والا ہے۔ اسلامی قوانین عالم الغیب اللہ عزوجل نے نازل فرمائے ہیں نہ یہ کہ چند مولویوں نے مل کر بنا دیئے ہیں جس پر بے دین لوگ مولویوں پر اعتراض کرتے پھریں۔ اللہ عزوجل نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جس میں کوئی حکمت نہ ہو اور اس پر عمل پیرا ہونے پر معاشرے میں برائی عام ہوتی ہو۔ اللہ عزوجل کو معلوم ہے کہ قیامت تک کون کون سی جدید چیز ایجاد ہوگی یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے کئی احکام پر غور کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جدید آلات استعمال کی اجازت فرمائی ہے چنانچہ حج کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ حج اونٹوں یا گھوڑوں پر ہی کرنا فرض ہے بلکہ مطلقاً فرمایا ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 97)

جدید اسلحہ کے متعلق علم ہونے کی صورت میں جہاد کو تلواریں اور تیروں کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ فرمایا ﴿وَاعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے لئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے۔

(سورۃ الانفال، سورۃ 8، آیت 60)

کثیر احادیث میں جدید آلات کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ کمپیوٹر انڈسٹریسٹم اور جدید ایجادات حیرت انگیز ہیں اور انیوالا دور اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگا۔ مصنف عبد الرزاق، مرقاۃ المفاتیح اور مسند احمد میں ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ”الرجل أن یسخر فلا یرجع

حتى تحدّثه نعلاه و سوطه ما أحدث أهله بعده“ ترجمہ: آدمی اپنے گھر سے نکلے تو واپس نہ لوٹ پائیگا حتیٰ کہ اس کے جوتے اور چھڑی اسے وہ کچھ نہ بتادیں جو اس کے (چلے جانے کے) بعد اس کے گھر والوں نے کیا ہوگا۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 13، صفحہ 426، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

جامع ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مشکوٰۃ شریف میں ہے ”عن أبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشارك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوزے کا پھندنا اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔

(الكتاب المصنف، كتاب الفتن، ما ذكر في فتنۃ الدجال، جلد 7، صفحہ 502، مكتبة الرشد، الرياض)

اس طرح کے اور بھی کئی دلائل ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث کے احکام میں قیامت تک آنے والی جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اسی کے مطابق اللہ عزوجل نے احکام صادر فرمائے۔ زنا کے ثبوت کے متعلق اگر چار گواہوں کا نہ فرمایا ہوتا بلکہ زنا ثابت ہونے کا فرمایا ہوتا تو کہا جاسکتا تھا کہ جس طرح بھی جدید ذرائع سے زنا ثابت ہو جائے کافی ہے جب اللہ عزوجل نے چار گواہوں کی شرط رکھ دی، اب اسے چھوڑ کر کسی

بھی ذرائع کی طرف جانا قرآنی حکم سے عدول ہے۔ اس طرح اگر شرعی احکام کو جدید ایجادات پر محمول کر دیا جائے تو بہت فتنہ ہو جائے، کئی جاہل نکاح میں دو گواہوں کی شرط ختم کر دیں اور دلیل یہ دیں کہ اصل تو گواہوں کا مقصد نکاح ہونے کو ثابت کرنا ہے اور آج کل کے نکاح نامہ اور مووی میں یہ سب کچھ آجاتا ہے اس لئے دو گواہ نہ بھی ہوں نکاح نامہ ہو اور لڑکا لڑکی کی ایجاب و قبول کی مووی ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ لہذا جدید ایجادات کا استعمال اسی حد تک درست ہے جب قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں۔

دوسرا یہ کہ قرآن و حدیث کے علاوہ سائنسی تحقیقات یقینی نہیں ہیں۔ سائنس نے کئی تحقیقات کیں اور اس کے صحیح ہونے پر بڑے دعوے کئے، بعد میں خود ہی اسے غلط ثابت کر دیا۔ یونیورسٹی میں دوران طالب علمی ایک مرتبہ پروفیسر صاحب سائنس کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ آج کے جدید دور میں سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ پچھلے سائنسدانوں کی طرح اپنی تحقیق کو حرف آخر نہ سمجھو چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک انگریز سائنسدان یونیورسٹی میں آیا تو طلباء نے اس سے سوالات کیئے جن میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ اللہ عزوجل کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ (یعنی سائنس کیا رب تعالیٰ کے وجود کو مانتی ہے یا نہیں؟) اس انگریز سائنسدان نے جواب دیا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ یعنی پہلے سائنس اللہ عزوجل کے وجود کا انکار کرتی تھی اور جب آئے دن سائنس کے کئی دعوے غلط ثابت ہوئے تو سمجھدار سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھنا چھوڑ دیا اور جو فی الحال موجود ہے اس کا اعتبار کیا۔

موجود دور میں بھی سائنس کا دعویٰ ہے کہ DNA رپورٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، جبکہ عین ممکن ہے کہ آئندہ اسے بھی غلطی کا امکان ثابت ہو جائے، جیسے پہلے فنگر پرنٹ پر ہی

اعتماد کیا جاتا تھا بعد میں تحقیق ہوئی کہ اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور آج کل آنکھ کی پتلی کے متعلق دعویٰ ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ الغرض انسان کے قانون میں غلطی ہونے کا یقینی امکان ہے اور اللہ عزوجل کے قانون میں غلطی نہ ہونے کا یقین ہے۔ اللہ عزوجل نے نسب و حدود میں جو قانون بنائے ہیں یہ انسانوں کی بہتری کے لئے ہیں اور اللہ عزوجل کے اس قانون کو نہ مانا جائے اور انسان کی ایجاد کردہ تحقیق پر مرٹ جائیں تو یہ معاشرے میں فساد کا باعث ہوگا۔ اگر زنا میں چار گواہوں کو چھوڑ کر ایک رپورٹ پر اعتماد کر لیا جائے تو یہ عورتوں کے لئے تحفظ نہیں بلکہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے عدم تحفظ ہے۔

مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے اور اپنی جہالت میں انگریزوں کے نقش قدم پر چلنے میں نہ صرف فخر محسوس کرتی ہے بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے اور جو نہیں چلتا ہے اس شدت پسند اور جاہل ثابت کرتی ہے۔ ایسی موقع پر جاہل مولوی بھی اپنی دوکانداری چکاتے ہیں اور سیکولر لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر خود کو جدید تعلیم سے ہم آراستہ اور دیگر علمائے حقہ کو جاہل ثابت کرتے ہیں۔ آج اسلام کے علاوہ کسی کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتاب نہیں ہے اس لئے کافر اپنی ہی ایجاد کردہ اشیاء پر اعتماد کرتے ہیں جس کے سبب ان کا معاشرہ بد امنی کا شکار ہے۔ چند سال پہلے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ایک امریکی خاتون کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے چند دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی زندگی ہی میں تین افراد نے اس بچی کے باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا جن میں سے ایک صاحب کے نام کو بچی کی ماں نے اپنی بیٹی کے نام کا حصہ بھی بنا دیا۔ بعد ازاں بات ڈی این اے ٹیسٹ تک جا پہنچی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بچی کا اصل باپ کون ہے؟ اور اس طرح ٹیسٹ کے

بعد تینوں دعویٰ داروں میں سے ایک کے حق میں فیصلہ دیدیا گیا کہ وہ اس بچی کا باپ ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے ایک بہترین فطرتی سیدھا سادھا قانون دیا کہ عورت جس کے نکاح میں ہوگی اس کی اولاد اسی شخص کی کہلائے گی چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ”الولد للفراش وللعاهر الحجر“ ترجمہ: بچہ اس کا ہے جس کا نکاح ہے اور زنا کار کے لئے صرف پتھر ہی ہیں۔

(سنن الترمذی، ابواب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، جلد 2، صفحہ 454، دار الغرب الإسلامی، بیروت)

اگر آج اس اصول کو چھوڑ کر DNA ٹیسٹ کو ہی حرفِ آخر سمجھ لیا جائے تو معاشرہ بد امنی اور شک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، جس کا دل چاہے گا وہ اپنے والد کے نسب کا انکار کر دے، جس کے ساتھ چاہے گا خود کو منسوب کر لے گا اور فیصلہ DNA ٹیسٹ پر ہوگا، رپورٹ اگر بالفرض سو فیصد صحیح بھی ہو تو کیا یہ دلوں میں نفرت کا باعث نہ ہوگا؟ پھر اس جدید زمانے اور اس زمانہ جاہلیت میں کیا فرق رہ جائے گا جس میں نسب کچھ اس طرح ہی قیاس آرائیوں سے ثابت ہوتا تھا چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زمانہ جاہلیت کے بے حیائی پر مشتمل اس طریقہ کار کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتی ہیں ”أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسه أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح

آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحببت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن (ص 16): ينصبن على أبايهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتايط به، ودعى ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم“ ترجمہ: زمانہ جاہلیت میں چار طرح کا نکاح تھا، ایک نکاح تو یہی تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بیٹی کا پیغام بھیجتا تھا اور اسے مہر دے کر اسے بیاہ لاتا تھا، نکاح اس طریقہ پر بھی تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ جب تو ایام سے پاک ہو جائے تو فلاں مرد کے پاس چلی جانا اور اس سے فائدہ حاصل کر لینا، پھر شوہر اس عورت سے جدا ہو جاتا تھا، اور اس کے قریب نہ جاتا تھا، جب تک کہ اس مرد کا حمل ظاہر نہ ہو جاتا، جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو اس کا شوہر جب دل چاہتا اس کے پاس چلا جاتا، یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا تھا کہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو، اس نکاح کو نکاح استبضاع کہتے تھے۔ تیسرے نکاح کی قسم یہ تھی کہ چند آدمی دس سے کم جمع ہو کر ایک عورت سے صحبت کرتے تھے، جب اسے حمل ٹھہر جاتا اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا اور اسے کئی دن ہو جاتے تو وہ

سب کو بلواتی، ان میں سے کسی کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ آنے سے انکار کر دے، جب سب جمع ہو جاتے تو وہ کہتی کہ تم سب کو اپنا معلوم ہے جو کچھ تھا اور میرے ہاں تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، اے فلا نے یہ تیرا بیٹا ہے، جو تیرا دل چاہے اس کا نام رکھ (تجھے اختیار ہے) وہ اس کا ہو جاتا تھا اور اسے انکار کرنے کی مجال نہ ہوتی تھی۔ چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سے آدمی ایک عورت سے صحبت کر جایا کرتے تھے اور وہ کسی آنے والے کو منع نہ کرتی تھی، دراصل یہ رنڈیاں تھیں، انہوں نے نشانی کے طور پر دروازوں پر جھنڈے نصب کر رکھے تھے کہ جو چاہے ان سے صحبت کرے، جب ان میں سے کسی کو حمل ٹھہر جاتا اور بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ سب جمع ہو کر علم قیافہ کے جاننے والے کو بلاتے، وہ جس کے مشابہ دیکھتے، اس سے کہہ دیتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہو جاتا اور وہ بچہ اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا اور وہ مرد اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا، پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی مبعوث ہوئے تو سب قسم کی زمانہ جاہلیت کی شادیاں باطل کر دی گئیں، صرف آج کل کی شادی کا مروجہ طریقہ جائز رکھا گیا۔

(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب من قال لا نکاح إلا بولی، جلد 7، صفحہ 15، دار طوق النجاة، مصر)

جس طرح جاہلیت میں لوگ قیافہ شناس سے اندازہ لگواتے تھے اب قیافہ شناس کی جگہ DNA ٹیسٹ آ گیا ہے۔ الغرض یہ طریقہ غلیظ سوسائٹی اور متعفن و بدبودار معاشرہ کی میراث ہے اسلام بلکہ کوئی باحیا اور با غیرت انسانی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا گویا اس طریقہ کار سے زنا اور اولاد زنا کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے جبکہ اسلام نے ایسی تمام بے حیائی اور بے شرمی کی صورتوں کی شدت سے نفی کی ہے اور زنا جیسے قبیح فعل کی حوصلہ افزائی کے بجائے اس پر سخت سزاؤں کا نفاذ واجباً کرتے ہوئے حکم دیا ہے نہ یہ کہ ماں باپ پر زنا

کر الزام لگا کر ٹیسٹ کے ذریعے دوسروں کی اولاد ہونا ثابت کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ DNA رپورٹ کو کیوں کافی نہیں سمجھتے؟ کیا اسلام جدید تحقیقات کو اپنانے کی اجازت نہیں دیتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جدید تحقیق قرآن و سنت کے خلاف ہوگی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ سائنس کا قانون اللہ عزوجل اور اسکے رسول سے زیادہ درجہ نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ کہ DNA رپورٹ میں غلطی کا امکان موجود ہے جو درج ذیل صورتوں میں ہے:-

☆ پیسے دے کر رپورٹ غلط بنوائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اگر کہا جائے کہ DNA ٹیسٹ کی غلط رپورٹ بن ہی نہیں سکتی کہ وہ آگے چیلنج ہو سکتی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ جب رپورٹ آگے چیلنج ہوگی اس میں بھی رشوت کارآمد نہیں ہوگی؟ کیا ہر ملزم رپورٹ چیلنج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس پر زنا کا الزام جھوٹی رپورٹ کے بھروسے لگا ہے؟ اس کے برعکس اسلامی قانون میں جو چار گواہوں کی شرط ہے اس میں چار کوئی بھی کرائے کے گواہ معتبر نہیں ہیں بلکہ نیک عادل گواہ ہونے کی شرط ہے۔

☆ DNA رپورٹ یہ تو بتا دیتی ہے کہ عورت سے بد فعلی ہوئی ہے کیا یہ بھی بتا سکتی ہے کہ زبردستی مرد کی طرف سے تھی یا عورت کی طرف سے تھی؟ ہو سکتا ہے کہ مرد کی کینٹی پرپستول ہو کہ اس عورت سے زنا کرو اور وہ عورت کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر مرد پر کیس کروائے۔

☆ اگر کسی کا مادہ منویہ کسی طریقے سے حاصل کر کے اور اسکو اپنے اوپر استعمال کر کے کوئی عورت کسی پر الزام لگا دے اور ڈی این اے کو اصلی ثبوت کے طور پر لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا جیسا کہ پاکستانی گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے مخالف کو

ڈی این اے ٹیسٹ غلط تھا، 19 سال بعد قاتل کے خلاف ثبوت مشکوک

April 22, 2009

By خاور کھوکھر

(نیپٹورس) تھوچگی کین کے شہر آشی کا گا میں 19 سال پہلے ہونے والے 4 سالہ بچی کے قتل کے کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، 4 سالہ بچی کے قتل کے جرم میں عمر قید کے حکم کے تحت جیل میں قید سوگایا تو شیکاگو کا ڈی این اے ٹیسٹ اس وقت بچی کے کپڑوں پر ملنے والے خون کے ڈی این اے ٹیسٹ سے مختلف نکلا ہے۔ 19 سال پہلے جب کہ ڈی این اے کی تکنیک ابھی ایڈوانس نہیں تھی اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ میں 97 میں سے ایک کے غلط ہونے کا امکان پایا جاتا تھا۔ اس وقت سوگایا ڈی این اے ٹیسٹ میں مجرم پایا گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ ڈی این اے کی تکنیک ترقی کر گئی ہے اور اب ساڑھے چار ارب میں ایک کے غلط ہونے کا امکان ہے، اس وقت سوگایا کا ڈی این اے ٹیسٹ 1990ء والے ٹیسٹ سے مختلف نکلا ہے۔ جرائم کی تفتیش میں جاپان نے ڈی این اے کا استعمال 1989ء میں شروع کیا تھا۔“

(روزنامہ اخبار، 22 اپریل 2009ء)

ساڑھے چار ارب میں ایک رپورٹ غلط ہونے کا امکان بھی صرف ایک دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے آئندہ یہ بھی غلط ثابت ہو۔ بلکہ اگلی رپورٹ سے اس دعویٰ کی بھی تردید ہو رہی ہے چنانچہ انٹرنیٹ کی ایک سائٹ میں DNA رپورٹ غلط ہونے پر کچھ اس طرح کلام کیا گیا: ”ڈی این اے کے تجزیے نے جرم و سزا کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ڈی این اے کے ذریعے شناخت کی بدولت صرف ایک بال، جلد کے چھوٹے سے حصے یا جسمانی لعاب کے نمونے کے ذریعے مجرم کا کھوج لگانا آسان ہو گیا ہے۔ اس جدید طریقہ

انگوا کر کے اس کا مادہ منویہ حاصل کر کے کسی کے ذریعہ سے الزام لگا دے اور ڈی این اے اصلی ثبوت کے طور پر استعمال کرے تو آپ کیا کہیں گے؟

☆ بالفرض مجال ان پیش کئے گئے اشکالات میں سب کا توڑ ہو پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ لیبارٹری سے نمونے آگے پیچھے ہو جائیں اور انہی پر غلط نمونوں پر پتھر توڑ رپورٹ بن جائے۔ مجھے خود ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے اوپر زبردستی زنا کا الزام لگایا گیا اور DNA ٹیسٹ میں بھی یہ ثابت ہو گیا، بعد تحقیق کے میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔

المختصر یہ کہ اس رپورٹ کے غلط ہونے کا امکان موجود ہے جبکہ اسلامی سزاؤں میں بہت احتیاط برتی گئی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطء في العفو خير من أن يخطء في العقوبة“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں سے حدود کو دور کرو جہاں تک ہو سکے۔ اگر اس کے لیے کوئی راستہ ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ امام کا غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، جلد 4، صفحہ 33، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی نظیر ہے کہ DNA ٹیسٹ بھی غلط ہوا؟ تو میرا جواب ہے ہاں بالکل ہے 1990ء میں ایک DNA ٹیسٹ کی رپورٹ پر ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 19 سال بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا تو پہلی رپورٹ غلط ثابت ہوئی چنانچہ روزنامہ اخبار میں ہے: ”

شناخت کو قانونی نظام میں متعارف کرائے جانے کے بعد سے پایہ تکمیل تک پہنچنے والے مقدمات کی تعداد میں واضح اضافہ ہو گیا۔ تاہم ڈی این اے کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد کسی بھی کارروائی میں شفافیت لانا ہے۔ لیکن اگر ڈی این اے کا تجزیہ کرنے والی لیبارٹری کے نتائج ہی غلط ہوں تو پھر؟ یا پھر تجزیے کے لیے آئے ہوئے بالوں یا دیگر چیزوں کے نمونے ہی بدل جائیں تو؟ یا لیبارٹری سے ہی کوئی غلطی ہو جائے؟ جرائم کا کھوج لگانے کے لیے ڈی این اے کے تجزیے کے لیے بہترین سچی جانے والی یعنی امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی میں قائم لیبارٹری میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔

کئی برسوں تک ایف بی آئی کی اس لیبارٹری نے غلط نتائج فراہم کیے اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس لیبارٹری نے استغاثہ کی مدد کرنے کے لیے نتائج کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا۔ تاہم یہ غلط نتائج بڑی تعداد میں بے تصور لوگوں کو سزا دلانے کا سبب بنے۔ اس معاملے کا انکشاف ماہر کیمیا اور وکیل فریڈرک وائٹ ہرسٹ نے کیا جو ماضی میں ایف بی آئی کے لیے کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے 1990ء کی دہائی میں کہا تھا کہ ایف بی آئی لیبارٹری غیر جانبدارانہ اور عدالتی کارروائی کے لیے درکار معیارات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا: اس تصویر کا ایک رخ جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ اس لیبارٹری کی مجرمانہ غفلت کی بدولت ہزاروں لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔

اس جدید طریقہ شناخت کو قانونی نظام میں متعارف کرائے جانے کے بعد سے پایہ تکمیل تک پہنچنے والے مقدمات کی تعداد میں واضح اضافہ ہو گیا۔ اس وقت کی اٹارنی جنرل جینیٹ ریو Janet Reno نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے ایک

انکوائری کمیشن تشکیل دیا جس نے نو برس تک اس معاملے کی تحقیق کی مگر نہ تو اس کے نتائج سامنے آئے اور نہ ہی متاثرہ افراد کے بارے میں کچھ معلوم ہوا۔ اس معاملے کا تاریک پہلو یہ بھی ہے کہ ان غلط نتائج کے بارے میں جیلوں میں قید ایسے لوگوں کے خاندانوں اور ان کے دکلاء کو آگاہ نہیں کیا گیا، جن کے مقدمات کی دوبارہ سماعت کی صورت میں انہیں فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ مگر دوسری پارٹی کو ان غلط نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ ایف بی آئی ایسے بے شمار مقدمات کو دوبارہ کھولنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔

طویل قانونی جدوجہد کے بعد اس کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ اب منظر عام پر آگئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ان دستاویزات میں سے بعض کو شائع کیا ہے۔ رپورٹ میں کئی ایسے لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل کاٹ رہے تھے۔

ایسے ہی بے گناہ لوگوں میں سانتیا ٹریبل Santea Tribble بھی ہیں جنہیں ایک ٹین ایجر کے ساتھ زیادتی کے الزام میں 25 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی، جو بعد ازاں غلط ثابت ہوئی۔ ٹریبل کہتے ہیں: جب پولیس میری والدہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ ایک جرم کی تفتیش کے سلسلے میں آئی ہے تو میرے ذہن میں دو ایسے پارکنگ ٹکٹس کا خیال آیا جن کی ادائیگی تب تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر میں 25 برس کے لیے سلاخوں کے پیچھے تھا۔

لیکن بہت سے دیگر لوگوں کے لیے غلط نتائج کا معاملہ آشکار ہونے میں بہت دیر ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہیربرٹ بوائیل Herbert Boyle کو 1997ء میں زہریلا

انجکشن دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بالوں کا تجزیہ کر کے بوائل کے خلاف رپورٹ دینے والا اہلکار کئی مرتبہ غلط نتائج تک پہنچا تھا۔ بوائل کے خاندان یا اس کے وکیل کو کبھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔

ایک سروے رپورٹ کے مطابق کم از کم 250 ایسے مقدمات تھے جن کے لیے ایف بی آئی کی اس لیبارٹری کے نتائج ناقابل اعتبار تھے۔ لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان میں کتنے مقدمات میں مجرم ثابت ہونے والے کو دوبارہ سماعت کا موقع مل سکے گا۔“

(<http://www.dw.de>)

جب علماء ڈی این اے کو ہی حرف آخر سمجھنے پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں تو منکرین کو کوئی جواب نہیں ملتا تو ایک ڈھکوسلہ یہ مارتے ہیں کہ عورت زنا کے دوران چار گواہ کہاں سے لائے؟ اس قانون کے تحت عورت پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت کا قصور نہیں بلکہ ہمارا قصور ہے اگر آج بھی زنا کی سزا سرعام سوکوڑے اور رجم کی سزا نافذ کر دی جائے تو زبردستی زنا تو کیا رضامندی سے ہونے والا زنا بھی ختم ہو جائے اور اگر زنا کے الزام لگانے پر حد قذف اسی کوڑے کی سزا دی جائے تو کسی کو جرأت نہ ہو جھوٹا الزام لگانے کی۔ اگر سارا نظام اسلامی طریقہ پر ہوگا تو کوئی کسی عورت سے زبردستی زنا کرے گا تو اللہ عزوجل ایسے شخص کو کفر کردار تک پہنچانے میں مدد بھی کرے گا۔ اگر کتب حدیث و تاریخ کو دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ جب مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق قانون سازی کرتے تھے تو اللہ عزوجل کی غیبی مدد شامل حال ہوتی تھی۔ کتب حدیث میں واضح حدیث ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والوں پر پہاڑ گر پڑا تھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زبردستی زنا کیا، بعد میں اللہ

عزوجل نے اسے توبہ کی توفیق دی اور اس نے خود اپنے آپ کو سزا کے لئے پیش کر دیا۔ شریعت نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی اس سے زبردستی زنا کرنا چاہے تو یہ اپنے بچاؤ کے لئے اسے قتل کر سکتی ہو تو قتل کر دے چنانچہ ردالمحتار میں ہے ”لو استکرہ رجل امرأة لها قتله و كذا الغلام، فإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل“ ترجمہ: اگر کسی شخص نے عورت یا کسی لڑکے سے زبردستی بد فعلی کرنے کی کوشش کی تو عورت اور لڑکے کو اجازت ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیں جبکہ اور کوئی طریقہ نہ چننے کا نہ ہو سوائے قتل کے اور ایسے شخص کا قتل رایگاں جائے گا (یعنی قاتل کو سزا نہیں ہوگی)۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحدود، باب التعزیر، جلد 4، صفحہ 62، دار الفکر، بیروت)

یعنی شریعت نے عورت کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے اجازت دی کہ وہ اپنے عزت بچانے کے لئے زبردستی کرنے والے کو قتل کر دے، اس عورت پر قتل کرنے پر کوئی قصاص یا دیت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ عورت قتل تو کر سکتی ہے، خود اپنے آپ کو قتل کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔

لہذا اگر اپنے نظام کو نہیں بلکہ شریعت کے نظام کو بدلا جائے گا تو امن کی بجائے بد امنی میں اضافہ ہوگا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ بے دین لوگ حقوق نسواں کے نام پر اپنی این۔ جی۔ اوز چلانے اور کافروں سے مالی مدد لینے کے لئے عورتوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اسلام اور مولوی عورت کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی عورتیں ذرا سی بات پر شریعت پر اعتراض کر کے اپنا ایمان ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو مردوں سے زیادہ تحفظات دیئے ہیں جیسے والد کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ جو چیز لائے پہلے بچیوں کو دے، اگر باپ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے

بیٹیوں کو بھی بیٹوں جتنا دے، جب اولاد بالغ ہو جائے تو غیر معذور لڑکے کا نفقہ والد پر لازم نہیں جبکہ لڑکی بالغ بھی ہو جائے اور محتاج ہو تو جب تک نکاح نہیں ہوتا اس کا نفقہ والد پر لازم ہے، پھر جب نکاح ہو جائے تو شوہر پر اس کا نفقہ لازم ہے، وراثت میں عورت کا حصہ والدین کی طرف سے بھی رکھا اور شوہر کی جائیداد میں بھی رکھا، مرد پر باپ سے زیادہ ماں کے حق کو رکھا وغیرہ۔

لیکن افسوس کئی عورتیں سیکولر لوگوں کی باتوں میں آکر اپنا ایمان کمزور کر لیتی ہیں اور سیکولر لوگ عورتوں کی آزادی کے نام پر انہیں بے حیا و بے دین بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے فتنے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ فتویٰ نویسی والے عورتوں کے فریبوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل بعض عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے سے یارانہ لگا لیتی ہیں اور پھر شوہر سے جان چھڑانے کے لئے کورٹ میں خلع کا مطالبہ کرتی ہیں اور شوہر کے گھر کا ایڈریس غلط لکھواتی ہیں، کورٹ تین نوٹس اسی غلط ایڈریس پر بھیجتا ہے، جب کوئی جواب نہیں آتا تو خود سے خلع نامہ جاری کر دیتا ہے اور عورت گھر بیٹھے ہوئے شوہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ آج سے تم میرے شوہر نہیں، پھر شوہر اس نظام کے ہاتھوں جو روتا ہے اسکو علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ (یہ یاد رہے کہ بغیر شوہر کی رضامندی کے کورٹ کا طلاق دینا معتبر نہیں ہے۔)

اس سے بڑا یہ فتنہ تو عام ہے کہ لڑکی پہلے اپنی مرضی سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، جب دونوں پکڑے جاتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے پر کیس کرتے ہیں اور اپنا کیس مضبوط کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ اس نے ہماری بچی کو اغوا کیا تھا، لڑکی مجبوراً کورٹ میں بیان دے دیتی ہے کہ اس نے مجھے اغوا کیا تھا، لڑکا سلاخوں میں ہوتا ہے اور لڑکی آگے نکاح

کر لیتی ہے۔ اگر DNA رپورٹ پر زنا کی سزا ملنا شروع ہو جائے تو عورت یہ بھی کہے گی کہ اس نے مجھے اغوا کر کے مجھے سے زبردستی بھی کی ہے، اب DNA رپورٹ یہ تو بتائے گی نہیں کہ زبردستی صحبت ہوئی ہے یا نکاح کے بعد رضامندی سے۔ اب جو مرد کے ساتھ ہوگا، اس کا فیصلہ قارئین بخوبی کر سکتے ہیں۔

الغرض اسلامی قوانین کو چھوڑ کر DNA رپورٹ کو ہی حرف آخر سمجھنا ہلاکت اور معاشرے کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے۔

لواطت کا ثبوت

لواطت کی تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مگر لواطت کی تہمت پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ یونہی جانور سے بد فعلی کی تہمت لگائی تو گناہ گار ہے اور تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ مرد یا جانور دونوں سے لواطت ثابت کرنے کے لئے دو عادل (نیک و پرہیزگار) آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ دررالْحکام شرح غرر الاْحکام میں ہے ”قال فی السراج ایتیان البھیمة الاصح عند اصحابنا جمیعا ان یقبل فیہ عدلان ولا یقبل فیہ شہادة النساء (قولہ او اُتی فی دبر) شامل دبر منکوحتہ واختلفوا فی الشہادة علی اللواطۃ فعند اُبی حنیفۃ یکفی عدلان وعندہما لا بد من اربعة کالزنا“ ترجمہ: سراج میں ہے جانور کے ساتھ وطی کرنے پر ہمارے تمام اصحاب کے اصح قول کے مطابق دو عادل مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں۔ جو کوئی دبر میں وطی کرے اس میں اس کی اپنی بیوی بھی شامل ہے (یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے بھی اس کی دبر میں وطی کرے) تو اس لواطت کی شہادت میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں دو عادل مردوں کی گواہی کافی اور امام محمد اور امام یوسف رحمہما

اللہ کے نزدیک زنا کی طرح چار گواہ ضروری ہیں۔

(درر الحکام شرح غرر الأحکام، کتاب الحدود، باب الوطء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبہ، جلد 2، صفحہ 66، دار إحياء الكتب العربية)

مشت زنی کی سزا

مشت زنی پر کوئی شرعی حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ درمختار میں ہے ”الاستمناء

حرام، وفيه التعزير“ ترجمہ: مشت زنی حرام ہے اور ایسا کرنے والے پر تعزیر ہے۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب الحدود، فرع الاستمناء، جلد 4، صفحہ 27، دار الفکر، بیروت)

فصل دوم: زنا اور نکاح

زانیہ سے نکاح

بعض علماء کے نزدیک ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا۔

قرآن پاک میں ہے ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ (سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 3)

بعد میں اللہ عزوجل زانیہ سے بھی نکاح کی اجازت دے دی چنانچہ قرآن پاک

میں ہے ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ (سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 3)

دوسری جگہ ہے ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نکاح

کردو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔ (سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 32)

تفسیر طبری میں ہے ”كان هذا حکم الله في كل زان وزانية، حتى نسخه

بقوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم“ ترجمہ: اللہ عزوجل کا یہ حکم ہر زانی اور زانیہ کے لئے تھا۔ پھر اللہ عزوجل نے اس فرمان ”اور نکاح کردو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔“ سے زانیہ سے نکاح نہ کرنے کے حکم کو منسوخ کر دیا اور ہر مسلمان مرد و عورت کا باہم نکاح کو حلال کر دیا۔ (اگرچہ دونوں میں سے کوئی ایک زانی ہو۔)

(جامع البيان في تأويل القرآن، جلد 19، صفحہ 100، مؤسسة الرسالة، بیروت)

فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”زن فاحشہ سے نکاح جائز ہے اگرچہ تا تب نہ ہوئی ہو،

ہاں اگر اپنے افعال خبیثہ پر قائم رہے اور یہ تا قدر قدرت انسداد نہ کرے تو یہ دیوث (بے غیرت) ہے اور سخت کبیرہ کا مرتکب، مگر یہ حکم اس کی اس بے غیرتی پر ہے نفس نکاح پر اس سے اثر نہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے محرمات گنا کر فرمایا ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں۔

رہی آیہ کریمہ ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ زانیہ عورت سے صرف زانی یا مشرک نکاح کرے اور مؤمنین پر یہ حرام ہے۔

اس کا حکم منسوخ ہے ”قاله سعيد بن مسيب وجماعة“ یہ سعید بن مسیب اور

ایک جماعت کا قول ہے۔ یا نکاح سے یہاں جماع مراد ہے ”كما قال حبر الامة

عبدالله بن عباس وسعيد بن جبيرة ومجاهد والضحاك وعكرمة وعبد الرحمن

بن زيد بن اسلم ويزيد بن هارون“ جیسا کہ امت کے ماہر عالم عبداللہ بن عباس اور

سعید بن جبیر اور مجاہد، ضحاک، عکرمہ، عبدالرحمان بن زید بن اسلم، اور یزید بن ہارون کا قول

ہے۔ ”والتفصیل فی فتاونا“ اس کی تفصیل ہمارے فتاویٰ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 235، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا زانیہ عورت سے نکاح جائز ہے لیکن زانیہ عورت سے نکاح خطرے سے خالی نہیں ہے، اگرچہ زنا کرنا اس نے چھوڑ دیا ہو۔ یہ کئی مرتبہ سننے میں آیا ہے کہ ایک انسان زانیہ عورت سے یہ سوچتے ہوئے نکاح کر لیتا ہے کہ اس نے زنا چھوڑ دیا ہے، پہلے تو مرد کے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں، پھر عورت نکاح کے بعد زنا کاری شروع کر دیتی ہے کہ زنا مثل نشہ ہے کہ جو بہت مشکل سے چھوٹتا ہے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ گھروالوں کی مرضی کے مطابق کسی نیک پرہیزگار عورت سے نکاح کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ زانیہ عورت اگرچہ بعد میں بھی زنا نہ کروائے لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ جو بچے ہوں گے لوگ ان پر طعن کریں گے کہ تمہاری ماں زانیہ تھی۔ پھر ایسی عورت اگر بدکاری سے باز نہ آئے تو پورے خاندان کی عزت برباد اور ساری نسل خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے جس کردار کی عورت ہوگی اولاد میں بھی وہی کردار منتقل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تزوجوا فی الحجز الصالح فان العرق دساس“ ترجمہ: اچھی نسل میں شادی کرو کہ رگ خفیہ اپنا کام کرتی ہے۔

(کنز العمال، کتاب المواعظ، الباب الثالث فی آداب النکاح، جلد 16، صفحہ 304، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

لہذا نیک پاکیزہ عورت سے ہی نکاح کیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿الْحَبِیْثَاتُ لِلْحَبِیْثِیْنَ وَالْحَبِیْثُوْنَ لِلْحَبِیْثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبُوْنَ لِلطَّیِّبَاتِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: گندیاں گندوں کے لئے اور گندے گندیوں کے لئے اور ستھریاں ستھروں کے لئے اور ستھرے ستھریوں کے لئے۔ (سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 26)

اگر خود پاک رہیں گے تو ان شاء اللہ بیوی بھی پاک ملے گی (اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ زانی کو زانیہ ہی ملے گی۔) اگر مرد بندار ہو تو دین گھرتک آجاتا ہے اور اگر بیوی بھی دیندار مل جائے تو دین نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔

زنا سے ہونے والی حاملہ عورت سے نکاح

جس عورت سے زنا کیا ہو بعد میں اسی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”کان ابن عباس یقول فی الرجل یزنی بالمرأۃ ثم یرید نکاحها قال: أول أمرها سفاح و آخره نکاح“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شخص کے بارے میں کہ جس نے ایک عورت سے زنا کیا پھر اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، فرماتے تھے کہ اول اس کا عمل زنا تھا اور آخر اس کا نکاح ہے۔

(المصنف، باب الرجل یزنی بامرأۃ، ثم یتزوجها، جلد 7، صفحہ 202، المجلس العلمی، الہند)

دوسری روایت میں ہے ”عن ابن طاوس، عن ابیہ قال: إذا زنت المرأة، ثم أونس منها توبۃ، حل نکاحها“ ترجمہ: حضرت ابن طاوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی مرد نے عورت سے زنا کیا پھر توبہ کی طرف مائل ہو تو اس عورت سے اس کا نکاح حلال ہے۔

(المصنف، باب المرأة الزانیۃ یحل نکاحها، جلد 7، صفحہ 207، المجلس العلمی، الہند)

اگر نکاح سے پہلے اس عورت سے زنا کیا ہے اور وہ حاملہ ہوگئی ہے، تب بھی اس سے نکاح جائز ہے اور بعد نکاح صحبت بھی جائز ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے ”وفسی مجموع النوازل إذا تزوج امرأة قد زنی هو بھا وظهر بھا حبل فالنکاح جائز

عند الكل وله أن يطأها عند الكل“ ترجمہ: مجموع النوازل میں ہے جب کوئی شخص کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس سے اس نے زنا کیا ہو اور اسکو حمل ٹھہر گیا ہو تو تمام فقہاء کے نزدیک نکاح جائز ہے اور صحبت بھی کر سکتا ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب النکاح، القسم السادس، جلد 1 صفحہ 280، دار الفکر، بیروت)

البتہ اگر نکاح کے بعد چھ ماہ سے قبل بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی شمار ہوگا، اگرچہ اسی مرد کے زنا سے عورت حاملہ ہوئی ہو اور بعد میں نکاح کر لیا گیا ہو۔

اگر عورت نے کسی سے زنا کروایا ہے اور حاملہ ہے اور اس حمل ہی کی حالت میں کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا ہے تو نکاح تو درست ہو جائے گا لیکن صحبت اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”قال لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره“ ترجمہ: سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عزوجل اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حرام ہے کہ غیر کی کھیتی کو سیراب کرے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی وطء السبايا، جلد 2، صفحہ 248، المكتبة العصرية، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ”زید اپنی عورت چھوڑ کر مر گیا عورت بیوہ اندر ایام عدت کے عمر سے مرتکب زنا کی ہوئی حاملہ، حمل زنا کا قرار پا گیا، عدت کے ایام اب گزر گئے، عمر مستدعی نکاح کا اسی عورت سے ہے، اب نکاح جائز ہے اور وطی کرنا قبل استبراء کے بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور کفارہ ذمہ زانی و زانیہ کے عائد ہوتا ہے یا نہیں؟“

تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”جبکہ وفات شوہر کی عدت گزر گئی تو اب عورت کو نکاح جائز ہو گیا اور وضع حمل کا انتظار زانی خواہ غیر زانی کسی کو ضرور نہیں کہ حمل

جو اثنائے عدت وفات میں حادث ہو اس سے عدت موت کہ چار مہینے دس دن ہے نہیں بدلتی... فرق اتنا ہے کہ خود عمر و جس کے زنا سے یہ حمل رہا ہے وہ اب اگر نکاح کرے تو اسے فی الحال وطی جائز اور دوسرے شخص سے نکاح ہو تو نکاح صحیح ہے مگر اسے تا وضع حمل زنا عورت کو ہاتھ لگانا جائز ہوگا۔ درمختار میں ہے ”صح نکاح حبلی من زنا وان حرم وطؤها ودواعیہ حتی تضع لونکحہا الزانی حل له وطؤها اتفاقاً“ ترجمہ: زنا سے حاملہ عورت سے نکاح جائز ہے اگرچہ اس سے وطی اور اس کے دواعی بچے کی پیدائش تک حرام ہے لیکن اگر زانیہ حاملہ سے خود اس کا زانی نکاح کرے تو اس کو وطی بالاتفاق حلال ہے۔

زانی و زانیہ پر جو حد شرع مطہر نے لازم فرمائی ہے وہ یہاں کہاں، مگر تو بہ فرض ہے اور اللہ عزوجل کا عذاب سخت ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 429، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فصل سوم: حرمت مصاہرت

ایک زنا یہ ہوتا ہے کہ جس سے زانی کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے یہ کسی غیر عورت سے زنا کرے یا کسی کی بیوی کسی سے زنا کروائے چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں ہے ”عن مجاهد قال لو رأى رجل مع امرأته عشرة تفجر بهم لم تحرم عليه“ ترجمہ: حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی بیوی دس مردوں سے زنا کروا رہی ہے تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔

(المصنف، باب الرجل یجد مع امرأته رجلاً، جلد 7، صفحہ 97، المجلس العلمی، الہند)

ایک زنا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سبب میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ اگر کوئی شخص (جس کی عمر 12 سال سے کم نہ ہو) کسی

عورت (جس کی عمر 9 سال سے کم نہ ہو) کو شہوت سے چھوئے اور اس کی چھونے سے شہوت بڑھ جائے یا عورت کی داخلی شرمگاہ پر نظر کرے تو اس عورت کے اصول و فروع یعنی ماں بیٹی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح اس عورت پر چھونے والے مرد کا باپ بیٹا حرام ہو جاتا ہیں۔ حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابتنتها وحرمت على ابنه وأبيه“ ترجمہ: جو عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرے یا اسے شہوت سے چھوئے اس عورت کی ماں، بیٹی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور اس عورت پر اس مرد کا باپ، بیٹا حرام ہو جاتا ہیں۔

(الاختیار، کتاب النکاح، فصل فی محرّمات النکاح، جلد 3، صفحہ 88، مطبعة الحلبي، القاهرة)
ایسا ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے۔ تبیین الحقائق میں ہے ”وقال عليه الصلاة والسلام من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابتنتها وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين“ ترجمہ: حضور علیہ السلام نے فرمایا: جو کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہو جائے گی۔ یہی مذہب حضرت عمر فاروق، حضرت عمران بن حصین، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور جمہور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔

(تبیین الحقائق، فصل فی المحرمات، جلد 2، صفحہ 106، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق)

البنا یہ شرح ہدایہ میں ہے ”وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ أنه قال إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت

على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابتنتها“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے یا اس کا بوسہ لے یا اسے شہوت سے چھوئے یا اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھے یہ عورت اس کے باپ بیٹی پر حرام ہو جائے گی اور اس عورت کی ماں اور بیٹی اس چھونے والے پر حرام ہو جائے گی۔

(البنایة شرح الهدایة، کتاب النکاح، مسته امرأة بشهوة بل تحرم عليه أمها وابتنتها، جلد 5، صفحہ 37، دار الکتب العلمیة، بیروت)

امام بخاری کے استاد محترم حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن ابن أبي نجيح، قال مجاهد إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه، وعلى ابنه“ ترجمہ: حضرت ابن ابی نیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی لونڈی کی شرمگاہ کو چھوئے، یا اس کی شرمگاہ اُس کی شرمگاہ کو چھوئے یا یہ مباشرت کرے تو یہ لونڈی اس مرد کے باپ اور بیٹی پر حرام ہو جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب النکاح، فی الرجل یجرّد المرأة ویلمسها من لا تحل لابنه، جلد 3، صفحہ 480، مکتبۃ الرشد، الریاض)

امام ابوحنیفہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ”إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها“ ترجمہ: آدمی نے اگر عورت کا بوسہ لیا یا اسے شہوت سے چھو یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی تو اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب النکاح، الرجل یقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته، جلد 3، صفحہ 481، مکتبۃ الرشد، الریاض)

لہذا اگر کسی شخص نے ایک عورت سے زنا کیا یا اسے شہوت سے چھو تو اس عورت

کی ماں، بیٹی اس مرد پر حرام ہو جائیں گے۔ شہوت سے چھونے کا یہ مسئلہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کسی نے اپنی سگی بیٹی کو شہوت سے چھوا تو چھونے والے کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی، اپنے بیٹے کی بیوی کو شہوت سے چھوا تو بیٹے پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی، بیٹے نے اپنے سگی یا سوتیلی ماں کو شہوت سے چھوا تو باپ پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، اگر اپنی ساس کو شہوت سے چھوا تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ لہذا اس مسئلہ کو بہت یاد رکھنا چاہئے کہ آج کل ساس کا داماد سے گلے ملنا عام ہے، ہاتھ ملائے جاتے ہیں، اگر معاذ اللہ ساس سے ہاتھ ملاتے وقت شہوت آئی تو اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی۔ اگر شہوت سے گلے ملا جائے جبکہ پہننے ہوئے کپڑے باریک ہیں کہ اس سے جسم کی گرمی محسوس ہو تب بھی حرمت ہو جائے گی۔ کئی جگہ تو چہرے کا بوسہ لیا جاتا ہے، اگر گال کا بوسہ لیتے وقت شہوت آئی تب بھی حرمت ہو جائے گی۔

حرمتِ مصاہرت میں دونوں طرف سے شہوت ہونا ضروری نہیں

پھر یہ ضروری نہیں کہ دونوں کو شہوت آئے گی تو حرمت ہوگی بلکہ اگر دونوں میں سے ایک کو بھی شہوت آگئی تو حرمت ہو جائے گی۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”وجود الشهوة من أحدهما يكفي“ ترجمہ: دونوں میں سے ایک کو شہوت آنا حرمت کے لئے کافی ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ، کتاب النکاح، الباب الثالث فی بیان المحرمات، القسم الثاني المحرمات بالصهرية، جلد 1، صفحہ 275، دارالفکر، بیروت)

عورت اگر چہ بوڑھی ہو پھر بھی حرمت ہو جائے گی۔ ہندیہ میں ہے ”ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة يوجب الحرمة“ ترجمہ: بڑی عمر کی عورت جو حد شہوت سے نکل چکی ہو اس سے بھی حرمت ہو جاتی ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب النکاح، الباب الثالث فی بیان المحرمات، القسم الثاني المحرمات

بالصهرية، جلد 1، صفحہ 275، دارالفکر، بیروت)

پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سب ہوش و نیت سے ہوا اگر نیند میں یا غلطی سے اپنی بیٹی کو شہوت سے چھوا اور شہوت بڑھ گئی تو بیوی حرام ہو جائے گی۔ دُر مختار میں ہے ”ولا فرق بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان وخطأ واکراه فلوا يقظ زوجته او ايقلته هي لجماعها فمست يد ه بنتها المشتهاة او يدها ابنه حرمت الأم أبداً“ ترجمہ: شہوت کے ساتھ چھونے اور نظر کرنے کے مابین کوئی فرق نہیں کہ خواہ یہ انفعال قصداً ہوئے ہوں یا بھول کر یا غلطی سے یا مجبوراً ہوئے ہوں بہر حال حرمت ثابت ہو جائے گی، تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کو جماع کے لئے اٹھانا چاہا اور غلطی سے شہوت کے ساتھ ہاتھ مشتھاہ بیٹی پر پڑ گیا تو اس کی ماں ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی اور اسی طرح اگر عورت نے اپنے شوہر کو اٹھانا چاہا اور شہوت کے ساتھ غلطی سے ہاتھ بیٹے پر پڑ گیا تو وہ اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ (درمختار مع ردالمحتار، کتاب النکاح، جلد 3، صفحہ 35، دارالفکر، بیروت)

شہوت کی تعریف

شہوت کی تعریف یہ ہے کہ شرمگاہ میں انتشار ہو۔ المحیط البرہانی میں ہے ”والشهوة: أن تنتشر آلتہ إليه بالنظر إلى الفرج أو المس إذا لم يكن منتشرأ قبل هذا، وإذا كان منتشرأ فإن كان يزداد قوة... وهذا إذا كان شاباً قادراً على الجماع، وإن كان شيخاً أو عنيماً فحدُّ الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء“ یعنی شہوت یہ ہے کہ عورت کی فرج کی طرف نظر کرنے اور اسے چھونے میں شرمگاہ میں انتشار ہو اگر پہلے انتشار نہیں تھا اور اگر پہلے انتشار تھا تو چھونے میں انتشار میں زیادتی ہو۔ یہ حکم جوان قابل جماع کے لئے اور بوڑھے اور عنین کے لئے شہوت کی حدی یہ ہے کہ اس کے

دل میں شہوت کے ساتھ حرکت پیدا ہو۔

(المحیط البرہانی، کتاب النکاح، الفصل الثالث عشر فی بیان أسباب التحريم، جلد 3، صفحہ 63، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حرمتِ مصاہرت کے یہ مسائل ضرورۃً بیان کئے گئے ہیں انہیں پڑھ کر کوئی قاری وسوسوں کا شکار نہ ہو، اس طرح کے مسائل پڑھ کر بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کو ذہن پر سوار نہ کیا جائے۔ اگر کسی کو ایسا مسئلہ درپیش ہو تو کسی مستند مفتی سے مسئلہ پوچھے۔ ان شاء اللہ عزوجل مسئلے کا حل نکل آئے گی۔

حرمتِ مصاہرت اور متارکہ

جب بیٹا باپ کی بیوی سے معاذ اللہ زنا کر لے یا شہوت سے چھو لے تو باپ پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، اب شرعی ثبوت یا باپ کی تصدیق کے بعد اس بیوی کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے جسے متارکہ کہا جاتا ہے۔ متارکہ قول اور فعل دونوں سے ہو جاتا ہے یعنی قولاً متارکہ یہ ہے کہ باپ بیوی سے کہے میں نے تجھے چھوڑا اور فعلاً متارکہ یہ ہے کہ اس طرح چھوڑ دے کہ دوبارہ رجوع کا ارادہ نہ ہو۔ اسی طرح بیٹی کی بیوی سے باپ ایسی حرکت کر بیٹھے تو بیٹی پر بیوی کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ عورت متارکہ کے بعد عدت گزارے گی اور بعد عدت آگے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے پہلے شوہر سے کسی صورت بھی نکاح نہیں ہو سکتا اگرچہ حلالہ بھی ہو جائے۔ درمختار ”بحرمة المصاهرة لا یرفع النکاح حتی لا یحل لها التزوج باخر الا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطی بها لا یكون زنا“ ترجمہ: حرمتِ مصاہرہ کے ساتھ نکاح باطل نہیں ہوتا حتیٰ کہ دوسرے شخص سے اس بیوی کا نکاح حلال نہیں ہوگا تا وقتیکہ متارکہ کے بعد عدت نہ گزر جائے اور متارکہ سے قبل اگر خاوند وطی کر لے تو زنا کا حکم نہ لگے گا۔ (یعنی گناہ ہوگا لیکن زنا کی حد نہیں لگے گی۔)

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، جلد 3، صفحہ 37، دار الفکر، بیروت)

ردالمحتار میں ہے ”أن النکاح لا یرتفع بل یفسد وقد صرحوا فی النکاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها کتر کتک أو خلیت سبیلک وأما غیر المدخول بها فقیل تكون بالقول وبالترك علی قصد عدم العود إليها“ ترجمہ: حرمتِ مصاہرت سے نکاح ختم نہیں ہوتا بلکہ فاسد ہو جاتا ہے اور فقہاء نے نکاح فاسد کے متعلق صراحت فرمائی کہ اس میں متارکہ بغیر قول کے متحقق نہیں ہوتا۔ اگر مدخول بہا (یعنی جس سے صحبت کی ہو) وہ ہو تو اس کہے میں نے تجھے چھوڑا یا تیرا رستہ خالی کیا۔ اگر عورت غیر مدخول بہا ہے (یعنی جس عورت سے فقط نکاح ہوا ہے صحبت نہیں ہوئی) تو کہا گیا کہ اس سے متارکہ قول اور بغیر قول فقط اس طرح چھوڑنے سے بھی ہو جائے گا کہ دوبارہ رجوع کا ارادہ نہ ہو۔

(ردالمحتار، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، جلد 3، صفحہ 37، دار الفکر، بیروت)

سالی سے زنا

اگر کسی نے اپنی سالی کو شہوت سے چھوایا اس سے زنا کیا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اگرچہ سخت حرام کام کیا۔ بخاری شریف میں ہے ”قال عکرمۃ، عن ابن عباس، إذا زنی بأخت امرأته لم تحرم علیہ امرأته“ ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے جس نے اپنے سالی سے زنا کیا ہے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔

(صحیح البخاری، باب ما یحل من النساء وما یحرم، جلد 7، صفحہ 11، دار طوق النجاة، مصر)

درمختار میں ہے ”فی الخلاصة وطی اخت امرأته لا تحرم علیہ امرأته“

ترجمہ: خلاصہ میں ہے کہ سالی سے زنا کی وجہ سے بیوی حرام نہ ہوگی۔

(ردالمحتار، کتاب النکاح، جلد 3، صفحہ 28، دارالفکر، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اگر زوجہ نکاح میں ہے اور سالی سے زنا کیا تو زوجہ سے قربت بھی حرام نہ ہوگی، نہ اس کی اولاد ولد الحرام ہوگی، سالی سے جو بچے ہوں گے ولد الزنا ہوں گے اور زید کا ترک نہ پائیں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 271، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فصل چہارم: زانی کو زنا سے روکنے کے متعلق احکام

زنا پر حد لگانے کا اختیار کس کو ہے؟

اس مسئلہ میں یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ زنا کی حد لگانا اور تعزیر یہ حاکم اسلام کا کام ہے۔ لہذا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ خود سے کسی زانی کو حد لگائے۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”حضرت ملک العلماء والفضلاء ثقتی ورجائی ادام اللہ تعالیٰ ظلہ علی روس المستفیضین، نیاز بے انداز و شوق زیارت کے بعد جن کا کوئی حد اندازہ نہیں۔ گزارش ہے اس پہاڑی علاقہ میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ زانی و مزنیہ کو زنا کی حالت میں قتل کر ڈالتے ہیں اور بعض واقعات یہ ہیں کہ جب ان کے نزدیک عورت کا کسی بیگانہ کے ساتھ بیٹھتا ہوا یا آتا جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو پہلے چند مرتبہ اسے منع کرتے ہیں اور اس کے باز نہ رہنے کے بعد اس عورت کو قتل کر دیتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو اس شخص بیگانہ کو بھی نہیں چھوڑتے، بموجب شرع شریف ان دونوں صورتوں میں قاتل گنہگار ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔“

جو با آپ فرماتے ہیں: ”جناب مولانا المکرم ذی الفضل الائم والمجدد الکریم

دامت مکارمہ! اس سلسلہ میں اضطراب کثیر ہے اور وہ جو فقیر کو کتب معتمدہ دلائل شرعیہ سے تحقیق ہوا یہ ہے کہ صورت ثانیہ میں ان مردوزن کا قتل محض حرام ہے، فقط آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کی سزا شریعت نے بھی قتل نہ رکھی، نہ اس قدر خلوت کو مستلزم، اور حق یہ کہ مجر دخلوت بلکہ دواعی پر بھی شرع مطہر نے قتل نہ رکھا، اور سیاست کا اختیار غیر سلطان کو نہیں بلکہ سلطان کو بھی علی الاطلاق نہیں ”کل ذلك معلوم من الشرع بلاخفاء“ یہ سب کچھ شرع سے بلاخفاء معلوم ہے۔

لاجرم یہ ناحق قتل مسلم ہوا اور وہ سخت کبیرہ شدیدہ ہے اور قاتل پر قصاص عائد۔ صورت اولیٰ میں بھی حکم مطلق نہیں بلکہ واجب کہ پہلے زجر و ضرب و قہر کریں، اگر جدا ہو جائیں تو اب عامہ کو اس کا قتل حرام ہے، ہاں شہادت اربع گزریں یا مروجہ شرعی چار مجلسوں میں چار اقرار ہوں، تو ان میں جو محسن ہو سلطان اسے رجم فرمائے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 629، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

کئی جگہوں میں پنچائتی نظام رائج ہے اور وہ خود سے عجیب و غریب سزائیں دیتے ہیں جیسے زانی کی شرمگاہ کاٹ دینا، زانی اور اسکے والد کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھانا، زبردستی زانی کی بہن یا اس کے گھر کی کسی عورت کا نکاح زنا کروانے والی عورت کے گھر کے کسی مرد سے کروانا، زانی سے رقم لینا وغیرہ۔ یہ سب غیر شرعی حرکات ہیں۔ پنچائیت کو اس طرح کی سزائیں دینے کا شرعی و قانونی حق نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اسی قدر ہو سکتا ہے کہ زانی و زانیہ کو بقدر قدرت زنا سے روکا جائے، باز نہ آئیں تو برادری سے خارج کیا جائے، مسلمان اس سے میل جول چھوڑ دیں جب تک علانیہ توبہ نہ کر لیں۔

دوسرا یہ کہ کسی کو زانی ثابت کرنا شرعی طور پر آسان نہیں ہے بلکہ الزام لگانے

والے پر حدِ قذف اسی کوڑے سزا ہے۔ آج کل سنی سنائی باتوں پر لوگوں کو زانی ٹھہرا کر اسے ذلیل کیا جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ شریعت نے مسلمان کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه“ ترجمہ: جو اپنے (مسلمان) بھائی کی پردہ پوشی کرے اللہ عزوجل اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ جو اپنے بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے اللہ عزوجل اس سے قیامت کے دن کی تکلیف دور کرے گا۔ اللہ عزوجل اس کی مدد میں ہے جو اپنے بھائی کے مدد میں ہے۔

(صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، جلد 2، صفحہ 292، مؤسسة الرسالة، بیروت)

لہذا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے اور اگر زانی کو زنا سے روکنے کی قدرت ہے تو اسے روکے یا جو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اسے بتایا جائے، عام لوگوں کو اس کے زنا کا بتانا بے فائدہ ہے اور یہ پردہ پوشی کی فضیلت سے محروم ہونا ہے اور بعض صورتوں میں خود غیبت، بہتان کے زمرے میں آنا ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے زنا سے روکنے کے متعلق احکام واضح فرمائے ہیں جو پیش خدمت ہیں:-

امام مسجد اگر زانی ہو تو کیا کریں؟

امام مسجد اگر زانی ہو یا لواطت کرتا ہو اور یہ شرعی دلائل سے ثابت ہو جائے (نہ یہ کہ سنی سنائی باتوں پر مسلمان پر الزام لگا دیا جائے) تو امام مسجد کو امامت سے معزول

کر دیا جائے گا کہ اسے امامت سے برخاست کرنا ہی اسے زنا سے روکنے کا ایک قدم ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”زانی فاسق اور فاسق کے پیچھے نماز منع ہے، اُسے امام بنانا گناہ ہے اُس کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہوں ان کا پھیرنا واجب ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”مشی فی شرح المنیة علی ان کراہة تقدیمہ (یعنی الفاسق) کراہة تحریمہ“ شرح المنیہ میں ہے کہ اس (فاسق) کی تقدیم مکروہ تحریمی ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”کل صلاة ادبت مع کراہة التحريم تجب اعادتها“ ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اُس کا اعادہ واجب ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 523، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”جو زنا کرتا ہے اگر کسی کا یہ حال صحیح مشہور ہے تو اُس کے پیچھے نماز مکروہ ہے اس سے میل جول نہ چاہئے اگر عوام کے اوہام کی افواہ ہے کہ خواہی نخواستی عیب لگاتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں پھر بھی اگر اس کے سبب لوگوں کو اس کی امامت سے نفرت اور اسکے پیچھے جماعت کی قلت ہو تو اسے امام نہ کریں اگرچہ وہ الزام سے بری ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 605، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

آج کل سننے میں آتا ہے کہ کوئی مولوی ایسا فعل کرتا پکڑا جائے تو اس کا خوب چرچا کیا جاتا ہے اور گلی گلی اس کا تماشا بنایا جاتا ہے، حالانکہ چاہئے یہ کہ جب اس سے بھی بتقاضائے بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا پردہ رکھ کر اسے معزول کر دیا جائے لوگوں کو دینی لائن سے بدظن نہ کیا جائے۔

بیوی زانیہ ہو تو

اگر کسی کی بیوی زانیہ ہو اور شوہر کو یقینی طور پر پتہ چل جائے (نہ کہ شک و شبہ کی

زید کو دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں پھر رکھ لینے میں اس پر کوئی الزام نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 360، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شوہر اگر زانی ہے تو بیوی کو بھی چاہئے جتنا ممکن ہو سکے اسے روکے، اگر بازنہیں آتا تو احسن طریقے سے شوہر کے والدین کو بتائے جو اسے روک سکتے ہوں۔ اگر بیوی کے بتانے سے اسے شوہر کے ہاتھوں تکلیف اٹھانا پڑے گی تو بیوی بغیر اپنے نام خط کے ذریعے مرد کے والدین کو بتادے، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو صبر کرے اور دعا کرے۔

اگر بہن زانیہ ہو

بہن یا بھائی میں سے اگر کوئی زنا کرتا ہو تو انہیں بھی حسب استطاعت روکنا ضروری ہے۔ پہلے زبانی سمجھایا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، پھر بھی باز نہ آئے تو حسب ضرورت پٹائی بھی جائز ہے یا والد یا دوسرے بھائیوں سے کہہ دیا جائے۔ اگر صورت حال یہ ہے کہ یہ منع کرنے والا بھائی چھوٹا ہے اور اس کی اتنی چلے گی نہیں، تو اس پر صرف اتنا ہے کہ ایسے شخص کو بتادے جو انہیں روکنے کی طاقت رکھتا ہو ورنہ اس پر کچھ لازم نہیں ہے فقط دل میں برا جانے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین مسئلہ ہذا میں کہ ایسے شخص سے ملنا اور راہ و رغبت کرنا کیسا ہے جو باوجود تنبیہ لوگوں کے اپنی بہن بھانجی زانیہ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتا ہے اور نہ اس سے ملنا ترک کرتا ہے اور ایک بار حلف اٹھا چکا ہے کہ نہیں ملوں گا۔ بیٹو تو جروا۔“

جواب آپ فرماتے ہیں: ”اس شخص پر اتنا واجب ہے کہ اس عورت کو سمجھائے فہمائش کرے، اگر کسی سختی جائز پر قدرت رکھتا ہو اسے بجالائے، جو بند و بست اس کے ہاتھ ہو اس میں کوتاہی نہ کرے، اگر یہ شخص سب باتیں کرتا ہے اور وہ بازنہیں آتی تو اس کا وبال

بنیاد پر الزام تراشی کرتا رہے) تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ حسب استطاعت اسے زنا سے روکے، اس سے کلام کرنا چھوڑ دے، پھر بھی باز نہ آئے تو شرعی حد میں رہ کر پٹائی بھی کر سکتا ہے، اس عورت کے والد یا بھائیوں سے بات کرے۔ اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دینا بھی جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن طلاق دینا واجب نہیں ہے۔ درمختار میں ہے ”لا یسحب علی الزوج تطلیق الفاجرة“ ترجمہ: فاجرہ عورت کو طلاق دینا خاوند پر واجب نہیں ہے۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب النکاح، جلد 3، صفحہ 50، دار الفکر، بیروت)

اگر نکاح کے چند ماہ بعد ہی پتہ چلا ہے کہ عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں تو عافیت اسی میں ہے کہ فوراً طلاق دیدے، اس سے پہلے کے اولاد آڑے آجائے اور ساری زندگی ایسی بے حیا عورت کو برداشت کرنا پڑے۔ زانیہ عورت کے اثرات اولاد پر بھی بڑے پڑتے ہیں۔

اگر کسی کی بیوی معاذ اللہ کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی اور زنا کرواتا رہی تب بھی شوہر کے لئے جائز ہے کہ اسے معاف کر دے اور اسے واپس رکھ لے، اگر اس آوارگی کے دوران اس عورت کو بچہ بھی ہو جائے تو وہ زانی کا نہیں بلکہ شوہر کا ہی ہوگا مگر یہ کہ وہ شرعی طور پر پر لعان سے نسب کی نفی کر دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ کے جواب میں فرماتے ہیں: ”صرف نکال دینے سے زید کے نکاح میں کچھ فرق نہ آیا، لڑکی زید ہی کی قرار پائے گی اگرچہ ایام آوارگی میں یہ عورت کبھی زید کے پاس نہ آتی اور مکان میں واپس آتے ہی اسی دن لڑکی پیدا ہو جاتی“ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الولد للفرأش وللعاہر الحجر“ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بچے کا نسب نکاح والے سے ہوگا اور زانی کو محرومی ہے۔

اسی پر ہے اس پر کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے گناہ میں دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ قال تعالیٰ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کوئی جان دوسرے کا بوجھ (گناہ) نہیں اٹھائے گی۔

اور اگر یہ شخص اس کی اس حرکت پر ناراض ہے مگر فہمائش وغیرہ میں کمی کرتا ہے تو گنہگار ہوگا کہ نیک بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا جہاں تک اپنی قدرت میں ہو مسلمان پر ضرور ہے ”قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من رای منکم منکر افلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان“ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو زبان سے اگر اس سے بھی طاقت نہ رکھے تو پھر دل سے برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔

مسلمان اسے فہمائش کریں اور اگر یہ شخص ان حرکات پر راضی ہو تو معاذ اللہ دیوث ہے مسلمان اسے سمجھائیں، اگر باز نہ آئے تو اس سے میل جول چھوڑ دیں ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذَّكْرِ﴾ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) نصیحت یاد آنے کے بعد پھر ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 627، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

جس کے گھر والوں میں سے کوئی زانیہ ہو

اسی طرح جس کے گھر والوں میں سے کوئی زانیہ یا زانیہ ہو جیسے چچا، تایا، ماموں وغیرہ کی اولاد تو انہیں بھی جتنا ہو سکے روکنا چاہئے ورنہ باوجود قدرت کے منع نہ کرنے پر شریک گناہ و مستحق عذاب ہوگا۔ فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ سوال ہوا: ”کیا فرماتے

ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورات طوائف پیشہ خواہ بلا نکاح ایک کی پابند ہوں یا نہ ہوں ان سے اور ان کے ذکور (مردوں) سے اختلاط و اتحاد رکھنا اور شادی اور مجلسوں میں اپنے مکانات پر ان کو بطور برادرانہ بلانا اور اپنی عورتوں کو بے پردہ طوائفوں کے سامنے کرنا اور جو لوگ شامل و شریک ان طوائفوں کے رہتے ہیں ان کو بہ نیت ترقی اعزاز و افتخار ایک دسترخوان پر اور دیگر اہل اسلام کو بھی ان کے ساتھ کھلانا پلانا اور ایسے ذکور روانا کے یہاں خود جا کر کھانا اور دوسروں کو طوائفوں کی دعوتوں میں لے جانا اور جو مسلمان ایسے برتاؤ کو اچھا نہ سمجھتا ہو اس کو برا کہنا بلکہ اس رواج کے قائم دائم اپنی کوشش کرنا یہ سب جائز ہے یا ناجائز؟ اور ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ اور موروثوں کو نابالغ بچوں کو بخش گیت گانے یا بخش کلام کرنے سے منع نہ کرنا کس درجہ کا گناہ ہے؟ کتاب سے بیان فرماؤ رحمٰن سے ثواب پاؤ گے۔“

جوابا فرماتے ہیں: ”ایسی حرکات نہایت شنیع و ناپاک اور ایسے اشتخاص سراسر خطا کار و بیباک اور ایسے برتاؤ معاذ اللہ باعث عذاب و ہلاک ہیں، رنڈی اگرچہ بلا نکاح ایک کی پابند ہو علانیہ فاحشہ زانیہ اور اس کے مرد قلتبان و دیوث ہیں، یہ سب کے سب ہر وقت اللہ عزوجل کے غضب میں ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داع فستجاب له هل من سائل فیعطی هل من مکروب فیفرج عنه لا ینقی مسلم یدعو اللہ بدعوة الاستجاب اللہ عزوجل له الا زانیة تسعی بفرجها او عشار رواہ احمد بسند مقارب والطبرانی فی الکبیر واللفظ له عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور منادی ندا کرتا

ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائی جائے۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مشکل کشائی ہو۔ اس وقت جو مسلمان اللہ عزوجل سے کوئی دعا کرتا ہے مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے مگر زانیہ کہ اپنی فرج کی کمائی کھاتی ہے۔ یا لوگوں سے بے جا حاصل تحصیل لینے والا۔ امام احمد نے اس کو سند مقارب کے ساتھ روایت کیا۔ اور امام طبرانی نے ”الکبیر“ میں روایت کی اور الفاظ اسی کے ہیں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدًا الديوث و الرجل من النساء و مدمن الخمر۔ رواه الطبرانی عن عمار بن ياسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن“ تین شخص کبھی جنت میں نہ جائیں گے دیوث اور مردانی وضع بنانے والی عورت اور عادی شرابی۔ امام طبرانی نے اس کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند حسن روایت کیا ہے۔

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لو الديه و الديوث و رجلة النساء، رواه الحاكم في المستدرک و البيهقي في الشعب بسند صحيح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ تین شخص جنت میں نہ جائیں گے ماں باپ کا نافرمان اور دیوث اور مرد بننے والی عورت۔ حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب میں صحیح سند کے ساتھ اسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

یہ لوگ کہ ان بدکار عورتوں دیوث مردوں سے دوستی رکھتے ہیں روز قیامت انھیں کے ساتھ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لا یحب رجل قوما الا جعله الله معهم، رواه النسائی عن امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ

عنه“ جو جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے انھیں کے ساتھ کر دے گا۔ اسے نسائی نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”من احب قوما حشره الله في زميرهم رواه الطبرانی فی الکبیر والضعفاء فی المختارہ عن ابی قرصافة رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ جو جس قوم سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ انھیں کے گروہ میں اٹھائے گا۔ طبرانی نے مجمع کبیر میں اور ضیاء نے مختارہ میں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”المرء مع من احب۔ رواه الشيخان عن ابن مسعود عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، هو متواتر“ آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا۔ اس کو امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ سے انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا یہ حدیث متواتر ہے۔

ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کا حال بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل کان الرجل یلقى الرجل فیقول یا هذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانہ لا یحل لك ثم یلقاه من الغد وهو علی حاله فلا یمنعه ذلك ان یکون اکیله و شریبه و قعیده فلما فعلوا ذلك ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون ۝ كانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون ۝ الحدیث۔ رواه ابو داؤد واللفظ له والترمذی و حسنہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ بنی اسرائیل میں

پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں ایک شخص دوسرے سے ملتا اس سے کہتا اے شخص! اللہ سے ڈر اور اپنے کام سے باز آ کہ یہ حلال نہیں پھر دوسرے دن اس سے ملتا اور وہ اپنے اسی حال پر ہوتا تو یہ مرد اس کو اس کے ساتھ کھانے پینے پاس بیٹھنے سے نہ روکتا جب انھوں نے یہ حرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل باہم ایک دوسرے پر مارے کہ منع کرنے والوں کا حال بھی انھیں خطا والوں کے مثل ہو گیا۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کے کافر لعنت کے گئے داؤد و عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے۔ البتہ یہ سخت بری حرکت تھی کہ وہ کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے حدیث مذکور کو روایت کیا اور یہ الفاظ انھیں کے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کی تحسین فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسے روایت کیا۔

اللذکر ای مع القوم الظالمین ﴿۱﴾ وَاَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الدُّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۲﴾ اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھ۔

تفسیر احمدی میں ہے ”ہم المبتدع والفسق والكافر والقعود مع كلهم ممتنع“ ظالم لوگ بد مذہب اور فاسق اور کافر ہیں ان سب کے پاس بیٹھنا منع ہے۔

مروی ہو اللہ عزوجل نے یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی بھیجی میں تیری بستی سے چالیس ہزار اچھے اور ساٹھ ہزار برے لوگ ہلاک کروں گا۔ عرض کی الہی! برے تو برے ہیں اچھے کیوں ہلاک ہوں گے۔ فرمایا ”انہم لم یغضبوا بغضبی واکلوہم وشاربوہم رواہ ابن ابی الدنیا و ابو الشیخ عن ابراہیم عن عمر الصنعانی“ اس لئے کہ جن پر میرا غضب تھا انھوں نے ان پر غضب نہ کیا اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک

رہے۔ ابن ابی الدنیا اور ابوالشیخ نے ابراہیم سے انھوں نے عمر صنعانی سے اس کو روایت کیا۔

ایسے لوگ شرعاً مستحق تذلیل و اہانت ہیں اور نماز کی امامت ایک اعلیٰ درجہ کی تعظیم و تکریم ہے۔ شرعاً مطہر جس کی اہانت کا حکم دے اس کی تعظیم کیونکر روا ہوگی، ولہذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ فاسق اگرچہ سب موجود میں سے علم میں زائد ہو اسے امام نہ کیا جائے کہ امامت میں اس کی تعظیم ہو حالانکہ شرعاً اس کی توہین واجب ہے۔ مرقی الفلاح و فتح اللہ المعین و طحاوی علی الدر المختار میں ہے ”اما الفاسق الا علم فلا يقدم لان فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً“ امام کے طور پر کسی فاسق کو برائے امامت آگے کرنا جائز اور درست نہیں خواہ وہ بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور فاسق کی تعظیم نہیں بلکہ از روئے شرع اس کی توہین ضروری ہوتی ہے۔

اپنی عورتوں کو رنڈیوں کے سامنے بے پردہ حجاب کرنے والے ان سے میل ملاقات کرانے والے یا سخت احمق مجنون بد عقل ہیں یا نرے بے حیا بے غیرت بے شرم۔ عورت موم کی ناک بلکہ رال کی پڑیاں بلکہ بارود کی ڈبیا ہے آگ ایک ادنیٰ سے لگاؤ میں بھق سے ہو جانے والی ہے عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص اور طینت میں کچی اور شہوت میں مرد سے سو حصہ بیشی اور صحبت بد کا اثر مستقل مردوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر ان نازک شیشوں کا کیا کہنا، جو خفیف ٹھیس سے پاش پاش ہو جائیں۔ یہ سب مضمون یعنی عورات کا ناقصات العقل والدین اور کج طبع اور شہوت میں زائد اور نازک شیشیاں ہونا صحیح حدیثوں میں ارشاد ہوئے ہیں۔ اور صحبت بد کے اثر میں تو بکثرت احادیث صحیحہ وارد ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 208۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آج کل کوئی دینی ذہن کا شخص پردہ و بے حیائی کے متعلق خاندان والوں سے بات کرے تو رشتہ دار الٹا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، شرعی مسائل پر طعن و تشنیع کر کے اپنا ایمان خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”یہاں کے مسلمان اپنی عورتوں کو پہاڑوں اور جنگلوں میں بھیجتے ہیں اور غیر محرم آدمیوں سے کلام اور ہنسی مذاق کرتی ہیں بالکل ہی بے دریغ و بے پردہ ہے۔ اگر ان لوگوں کو کوئی عالم وعظ و نصیحت کرے تو اس کو تمسخر و استہزاء کرتے ہیں اور طعن لعن کرتے ہیں حسب شریعت ان لوگوں پر کیا حکم ہے؟“

جوابا فرماتے ہیں: ”یہ لوگ دیوث ہیں اور دیوث کو فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ دیوثی بھی فقط اس فعل تک ہے وہ جو مسائل نے بیان کیا کہ احکام شریعت کے ساتھ تمسخر و استہزاء اور عالم پر طعن و لعن کرتے ہیں یہ تو صریح کفر ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں اور ان کی عورتیں نکاح سے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو، لہذا معذرت نہ کرو اور بہانے نہ بناؤ۔ بلاشبہ تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 243، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اولاد اگر زانی ہو

اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اسے برائی سے روکنا والدین پر لازم ہے۔ اگر اولاد زنا میں مبتلا ہو تو والدین خصوصاً والد کو چاہئے کہ اسے ہاتھ و زبان سے روکے۔ اسے ڈانٹے، پھر بھی باز نہ آئے تو مارے ورنہ نکاح کر دے۔ الغرض جس قدر ممکن ہو والدین پر

لازم ہے کہ وہ اولاد کو اس سے بچائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”(1) والدین کا حق اولاد بالغ کو تنبیہ خیر واجب ہے یا فرض؟ (2) حق والدین اولاد پر کس قدر ہے؟“

جوابا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”(1) جو حکم فعل کا ہے وہی اس پر آگاہی دینی ہے فرض پر فرض، واجب پہ واجب، سنت پہ سنت، مستحب پہ مستحب۔ مگر بشرط بقدرت بقدر قدرت بامید منفعت، ورنہ ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَبْضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (لوگو! اپنی جانوں کی فکر کرو، لہذا تمہیں کچھ نقصان نہیں جو بھٹک گیا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(2) اتنا ہی کہ ادا ناممکن ہے مگر یہ کہ وہ مرجائیں اور یہ ان کو از سر نو زندہ کر سکے تو کرے کہ وہ اس کے وجود کا سبب ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 370، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک جگہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ کسی لڑکے کو اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ایک مکان کی موجودگی میں اسی مکان کی کوٹھری میں کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کاری اور ہم مجلس ہونا کیسا ہے یعنی ماں باپ کو اس کی حرکت کا متحمل ہونا چاہئے یا نہیں، کیا کرنا چاہئے؟ بیوا تو جروا (بیان فرمائے اجر و ثواب پائے۔)“

جوابا آپ فرماتے ہیں: ”زنا کاری یا اجنبیہ عورت سے خلوت جہاں ہو حرام ہے خصوصاً باپ کے محل حضور میں دوسرا کبیرہ سخت و اشد اور اس میں شامل ہے یعنی باپ کے ساتھ گستاخی اس کو ایذا رسانی، ایسے شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح

حدیث میں فرمایا کہ وہ اور دیوث جنت میں نہ جائیں گے۔ باپ کو ایسی حرکت ناپاک کا تحمل کرنا ہرگز روا نہیں بلکہ جہاں تک حد قدرت ہو باز رکھے۔ نہ باز رہے تو گھر سے دور کرے ورنہ اس کی آفت اس پر بھی آئے گی۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ (خدا کی پناہ۔) واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 216، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

والدین جس گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیں، پھر بھی ان کی بات نہ ماننا اور وہ گناہ کرنا اور زیادہ قابل گرفت ہے، پھر نافرمانی کے ساتھ ان کی بے ادبی کرنا ہلاکت ہے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عن العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة فلما كان بعد العصر إنشق منها قبر فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم إنطبق عليه القبر فسألت عنه فقيل إنه كان يشرب الخمر فإذا راح تقول أمه إتق الله يا وليدي فيقول إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار فمات بعد العصر فهو ينشق عنه القبر كل يوم بعد العصر فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر“ ترجمہ: حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں گیا اس کے کنارے پر قبرستان تھا، عصر کے وقت ایک قبر شق ہوئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے اور باقی بدن انسان کا، اس نے تین آوازیں گدھے کی طرح کیں، پھر قبر بند ہوگئی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ شخص شراب پیتا تھا، جب شام کو آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے! خدا سے ڈر۔ یہ جواب دیتا کہ تو تو گدھے کی طرح چلاتی ہے، یہ شخص عصر کے بعد مر اجب سے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں تین آوازیں گدھے کی کر کے پھر بند ہو جاتی ہے۔

(شرح الصدور بحوالہ اصباحانی فی الترغیب، باب عذاب القبر، صفحہ 172، دار المعرفۃ، لبنان)

والدین میں سے کوئی زانی ہو

والدین میں سے کوئی ایک زانی ہو تو اولاد کے لئے اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ادب سے انہیں سمجھانا کہ گستاخی سرزد نہ ہو بہت مشکل کام ہے، لیکن شرعی حکم یہی ہے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مبین ہندہ کے دوڑ کے زید و عمرو ہیں زید نے اپنی ماں کو بحکم شرع شریف بجائے گرتی پہننے کے جس کی آستین صرف شانے تک ہوتی ہے پورا ہاتھ بغل تک کھلا رہتا ہے اور لمبائی بالائے یازیر ناف برائے نام ہوتی ہے کرتا پوری آستین کا اور نیچا نصف ران تک پہننے کی ترغیب دی اور افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ زبانی سختی بھی کی جس پر ہندہ راغب ہو چکی تھی کہ عمرو نے ہندہ کو صراحتاً، کنایہ شہہ دی کہ تم اس کے کہنے کی کچھ پرواہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ہندہ اپنی رغبت سے منحرف ہوگئی۔ زید کا قول کیسا تھا اور عمر و کی شہہ اور جنبہ داری کیسے ہوئی ہندہ کا عمل کیسا ہے اور آخرت میں اس کی پاداش کیا ہے اور ایسی کرتی سے جس کی صراحت کی گئی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟“

جواب آپ فرماتے ہیں: ”عورت اگر صرف محارم کے سامنے ہوتی اور ایسی کرتی پہننے جس میں ہاتھ سب کھلے رہتے ہیں مگر پیٹ ڈھکا ہو خواہ اس کرتی یا دوسرے کپڑے سے، اور نماز کے وقت بازو کلائیوں وغیرہ ستر پورا چھپا رہتا ہو تو ایسی عورت کو وہ کرتی پہننا جائز ہے اور اسے ترغیب تبدیل کی حاجت نہ تھی اور ماں پر سختی کرنا حرام تھا اور دوسرے بھائی کا اس رغبت سے پھیر دینا اور عورت کا پھر جانا کچھ گناہ نہ ہوا، اور اگر عورت کسی نامحرم کے سامنے بھی ہوتی ہے اور وہی کرتی پہنتی ہے اور بدن اور کپڑے سے نہیں چھپاتی یا محارم کے سامنے پیٹ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے یا نماز میں بازو یا کلائی کا کوئی حصہ تو بلا شہہ عورت

سخت گنہگار ہے اور جس نے اسے تبدیل کی ترغیب دی تھی بہت اچھا کیا تھا مگر ماں پر سختی جب بھی جائز نہ تھی، اور دوسرے بھائی کا اس ترغیب سے پھیر دینا اور عورت کا پھر جانا سخت گناہ ہوا اُن پر توبہ واجب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 175، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

والدین کو زنا سے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس زنا کے عذاب کے متعلق تحریری مواد چھوڑ آئے تاکہ وہ انہیں پڑھ کر زنا سے باز آجائیں۔ اسی طرح اگر والدہ زانیہ ہے تو طریقے سے والد کو بتائے تاکہ وہ اسے باز رکھ سکے۔ والد زانیہ ہے تو والد کے بڑے بھائی، یا اور دوسرے خاندان کے بڑے شخص کو کہا جائے جو انہیں روک سکتا ہو۔ اگر پھر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو تو پاؤں پکڑ کر التجا کرے۔ الغرض جتنی استطاعت ہو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں بدکاری سے روکے۔

سوتیلی ماں اگر زانیہ ہو

سوتیلی ماں بھی اگر زانیہ ہو تو اس میں بھی اجازت نہیں کہ اسے مارا پیٹا جائے، بلکہ پہلے باز رہنے کی وارننگ دے، نہ باز آئے تو والد کو بتائے۔ عام طور پر سوتیلی ماں کو ویسے ہی دلی طور پر اپنایا نہیں جاتا اس لئے ذرا سی بات پر اس پر زنا کی تہمت لگا دی جاتی ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ سوال ہوا: ”سوتیلی مادر پر تہمت بد طرح طرح کی لگائے اس کے واسطے کیا حکم ہے؟ اور سوتیلی مادر کا حق پسر علاقائی پر ہے یا نہیں؟“

جواب فرمایا: ”حقوق تو مسلمان پر ہر مسلمان رکھتا ہے اور کسی مسلمان کو تہمت لگانا حرام قطعاً ہے خصوصاً معاذ اللہ اگر تہمت زنا ہو، جس پر قرآن عظیم نے فرمایا ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب ایسا نہ کرنا

اگر ایمان رکھتے ہو۔

تہمت زنا لگانے والے کو اسی کوڑے لگتے ہیں اور ہمیشہ کو اس کی گواہی مردود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فاسق رکھا، یہ سب احکام ہر مسلمان کے معاملے میں ہیں اگرچہ اس سے کوئی رشتہ علاقہ اصلاً نہ ہو اور سوتیلی ماں تو ایک عظیم و خاص علاقہ اس کے باپ سے رکھتی ہے جس کے باعث اس کی تعظیم و حرمت اس پر بلاشبہ لازم، اسی حرمت کے باعث رب العزت جل و علانے اسے حقیقی ماں کی مثل حرام ابدی کیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ان ابر البر صلة الرجل اهل و دایہ۔ رواہ مسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ بیشک سب نکو کاریوں سے بڑھ کر نکو کاری یہ ہے کہ فرزند اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ مسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسے روایت کیا۔

دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ نکو کاری کے طریقوں میں یہ بھی شمار فرمایا ”واکرم صدیقہما ابوداؤد ابن ماجہ و ابن حبان فی صحاحہم عن مالک بن ربیعۃ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ان کے دوست کی عزت کرنا۔ ابوداؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحاح میں مالک بن ربیعۃ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا۔

باپ کے دوستوں کی نسبت یہ احکام تو اس کی منکوحہ اس کی ناموس کی تعظیم و تکریم کیوں نہ احق و آکد (زیادہ حق رکھنے والی اور تاکید کی) ہوگی خصوصاً جبکہ اس کی ناراضی میں باپ کی ناراضی اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 386، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

نوکرانی کے ساتھ زنا ہونے کا خطرہ ہو

گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کا چال چلن ٹھیک نہیں اور اندیشہ ہے کہ خود یا گھر میں سے کسی اور کے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس عورت کو فوراً نکال دیا جائے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”ایک بیوہ عورت عرصہ پچیس سال سے زید کے مکان میں کام کاج کرتی ہے، زید اس سے نکاح کے لئے کہتا ہے، مگر وہ نکاح سے انکار کرتی ہے، لیکن بلا نکاح مجامعت کا اقرار کرتی ہے، لہذا بلا نکاح اس کے ساتھ مجامعت کرنا موجب زنا ہے یا نہیں؟“

جواباً آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بیشک ضرور زنا حرام ہوگا اور دونوں مستحق ناروغضب جبار ہوں گے اور اگر وقوع زنا کا اندیشہ ہو اور ظاہر یہی ہے تو عورت کو وہاں سے علیحدہ کر دے۔ اسے ہرگز اپنے مکان میں نہ رکھے یا عورت اس سے نکاح کر لے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 2، صفحہ 19، مکتبہ رضویہ، کراچی)

اسی طرح جس سے زنا ہونے کا خطرہ ہو اس کے قریب نہ جایا جائے، اس سے خلوت اشد حرام ہے، اگر دفتر کی کسی لڑکی سے زنا کا خدشہ ہو تو تبادلہ کر لیا جائے۔ الغرض جس کے ساتھ زنا ہو جانے کا خدشہ ہو اس سے ہر ممکن خود کو بچانے کی کوشش کی جائے۔

فصل پنجم: زنا سے توبہ کا طریقہ

زنا سے توبہ کی گنجائش موجود ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(سورۃ الفرقان، سورۃ 25، آیت 68، 69)

الزواج عن اقرار الكبار في احمد بن محمد حجر الهيتمي (المتوفى 974هـ) میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”کان الکفل من بنی اسرائیل وکان لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال ما بيكيك؟ أكرهتك؛ قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة، فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه بعدها أبداً، فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابيه إن الله قد غفر للكفل، فعجب الناس من ذلك“ ترجمہ: بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی گناہ گار شخص تھا، ایک عورت اس کے

پاس آئی۔ اس نے عورت کو ستر دینا بد فعلی کے لئے دیئے۔ جب وہ عورتوں کے ساتھ جماع کے لئے بیٹھا تو عورت نے کانپنا اور رونا شروع کر دیا۔ مرد نے پوچھا تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ عورت نے کہا نہیں لیکن یہ ایسا عمل ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا اور آج اسے صرف مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ آدمی نے کہا کہ تو اللہ عزوجل کے خوف سے رو رہی ہے تو میں زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ چلی جا! جو پیسے تجھے دیئے ہیں یہ تیرے ہیں۔ اللہ عزوجل کی قسم میں آج کے بعد اللہ عزوجل کی یہ نافرمانی نہیں کبھی نہیں کروں گا۔ وہ شخص اسی رات فوت ہو گیا اور صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ عزوجل نے کفل کی مغفرت کر دی۔ تو لوگوں کو اس واقعہ سے تعجب ہوا۔

(الزواج عن اقرار الكباثر، جلد 2، صفحہ 226، دار الفکر، بیروت)

زنا سے توبہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زنا کا ثبوت یہ ہے کہ چار گواہ ہوں یا زانی خود اعتراف کر لے۔ اگر کسی نے زنا کیا ہے اور اس زنا پر چار گواہ نہیں ہیں تو زانی کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے، قاضی کے سامنے یا کسی اور کے آگے اس کا اظہار نہ کرے۔ المستدرک للحاکم میں ہے "عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل" ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلمی کو رجم کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا: ان فحش اعمال سے بچو جن سے اللہ عزوجل نے منع فرمایا ہے۔ جو اس میں مبتلا ہوا تو وہ اسے چھپائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے۔ جو اپنا گناہ

خاہر کرے گا تو ہم اس پر قرآن کا حکم نافذ کریں گے۔

(المستدرک، کتاب التوبة والإناية، جلد 4، صفحہ 272، دار الکتب العلمیة، بیروت)

اگر کسی سے زنا شرعی طور پر ثابت ہو جائے یا وہ خود اقرار کرے اور اس پر شرعی حد لگے تو فقط یہ حد لگنا اس کی توبہ نہیں ہوگی بلکہ الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے چنانچہ البحر الرائق میں ہے "اختلف العلماء رحمهم الله في أن الطهارة من الذنب من أحكامه من غير توبة فذهب كثير من العلماء إلى ذلك وذهب أصحابنا إلى أنها ليست من أحكامه، فإذا أقيم عليه الحد ولم يتب لم يسقط عنه إثم تلك المعصية عندنا عملاً بأية قطاع الطريق فإنه قال تعالى ﴿ذَلِكَ لَكُمْ لَهْمٌ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ فقد جمع الله تعالى بين عذاب الدنيا والآخرة عليهم وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة" ترجمہ: علماء کرام رحمہم اللہ نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا حد کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ بغیر توبہ کے شرعی حد سے گناہ سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، کثیر علماء اسی طرف گئے ہیں اور ہمارے اصحاب (یعنی احناف) اس طرف گئے کہ جس پر شرعی حد لگائی گئی اور اس نے گناہ سے توبہ نہ کی تو یہ گناہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، اور یہ ڈاکوؤں کے متعلق قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا "یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی۔ تحقیق اللہ عزوجل نے ان پر دنیا و آخرت کے عذاب کو جمع فرمایا اور آخری عذاب کو توبہ کے ساتھ ساقط ہونے کا فرمایا۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، کتاب الحدود، باب حد الزنا، جلد 5، صفحہ 3، دار الکتب الإسلامی)

رب تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کے گھر والوں سے بھی کسی

طرح بغیر زنا کا اظہار کئے معافی مانگے۔ صرف رب تعالیٰ سے معافی مانگنا اس صورت میں کافی ہے جب عورت کے گھر والوں کو اس زنا کا پتہ نہ چلے۔

اگر اس زنا کا علم اس عورت کو گھر والوں کو ہو گیا ہے تو اب زانی کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ان کے گھر والوں سے بھی معافی مانگے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عورت اگر معاذ اللہ زانیہ ہے یعنی زنا اس کی رضا سے ہو تو اس میں اس کا کچھ حق نہیں تو اس سے معافی کی حاجت کیا بلکہ خود اوروں کے حق میں گرفتار ہے جبکہ شوہر یا محارم رکھتی ہو زنا کی اطلاع شوہر یا اولیائے زن کو پہنچ گئی تو بلاشبہ ان سے معافی مانگنا ضرور ہے بے اُن کے معاف کئے معاف نہ ہوگا اور اگر اطلاع نہ پہنچی تو اب بھی ان کا حق متعلق ہوایا نہیں، دربارہ غیبت علماء نے تصریح فرمائی کہ متعلق نہ ہوگا اور اس وقت ان سے معافی مانگنے کی حاجت نہیں صرف توبہ واستغفار کافی ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ”قال الفقیہ ابو الیث رحمہ اللہ تعالیٰ قد تکلم الناس فی توبۃ المغتائبین هل تجوز من غیر ان يستحل من صاحبه قال بعضهم لا يجوز وهو عندنا علی وجهین احدهما ان كان ذلك القول قد بلغ الی الذی اغتابه فتوبته ان يستحل منه وان لم يبلغ الیه فليستغفر الله سبحانه ويضم ان لا يعود الی مثله“ فقیہ ابوالیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے غیبت کرنے والوں کی توبہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، کیا جس کی غیبت کی اس سے معاف کرائے بغیر توبہ کرنی جائز ہے یا نہیں؟ بعض نے فرمایا کہ جائز نہیں۔ اور اس کی ہمارے نزدیک دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کو غیبت کی اطلاع ہوگئی تو پھر توبہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس سے معاف کرائے اور اگر اسے اطلاع نہیں ہوئی تو اس صورت میں

صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے دل میں یہ عہد کرے کہ پھر ایسا کبھی نہ کرے گا۔ درمختار میں ہے ”اذالم تبلاغه یکفیه الندم“ اگر غیبت کی اطلاع (جس کی غیبت کی گئی) اس کو نہ ہو تو پھر صرف ندامت کافی ہے۔ اور دربارہ زنا اس کی کوئی تصریح نظر سے نہ گزری، ظاہر ایہاں بھی یہی حکم ہونا چاہئے ”وقد جاء فی الحدیث الغیبة اشد من الزناء“ حدیث شریف میں آیا ہے کہ غیبت زنا (بدکاری) سے بھی بدتر گناہ ہے۔

مگر ازاں جا کہ اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہ گزری معافی چاہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے معاف کر دیا تو اطمینان کافی ہے مگر طلب معافی میں نہ تو صاف تصریح زنا ہو کہ شاید اس کے بعد معافی نہ ہو بلکہ ممکن کہ اس سے فتنہ پیدا ہو اور نہ اتنی ہی اجمالی پر قناعت کی جائے کہ مجھے اپنے سب حق معاف کر دے کہ اس میں عند اللہ اتنے ہی حقوق معاف ہوں گے جہاں تک اس کا خیال پہنچے لہذا تعمیم عام کے الفاظ ہونا چاہئیں جو ہر قسم گناہ کو یقیناً عام بھی ہو جائیں اور وہ تصریح خاص باعث فتنہ بھی نہ ہو مثلاً چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جو گناہ ایک مرد دوسرے کا کر سکتا ہے جان مال عزت آبرو ہر شے کے متعلق اس میں سے جو تیرا میں نے گناہ کیا ہو سب مجھے معاف کر دے۔۔۔ بالجملہ امر مشکل جو سچے دل سے مولیٰ عزوجل کی طرف رجوع لاتا ہے اس کا کرم ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 374، 375، رضافائونڈیشن، لاہور)

توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر عورت کی کوئی تصویر یا مووی پڑی ہے یا اور کوئی اس بدکاری کا ثبوت موجود ہے اسے ختم کرے، جن لوگوں میں یہ بدکار مشہور ہے ان میں اپنی توبہ بھی ظاہر کر دے۔

دیکھا جاتا ہے کہ زانی اگر زنا سے توبہ بھی کر لے تب بھی لوگ اس پر طعن کرتے

❁ -- باب سوم: زنا کے اسباب -- ❁

زنا کے درج ذیل بنیادی اسباب ہیں:-

پہلا سبب: بے حیائی کا ماحول

زنا کا پہلا سبب بے حیائی کا عام ہونا ہے کہ جس گھر، گلی، شہر، ملک میں حیا کی قلت ہوگی اور بے حیائی عام ہوگی وہاں زنا کا پودا نشوونما پائے گا اور رفتہ رفتہ اس کی جڑیں لوگوں کے دلوں میں قرار پکڑ لیں گی۔ آج جب مسلمانوں کو سکول، کالجوں، اداروں وغیرہ میں ہونے والی بے حیائیوں کے متعلق کہا جاتا ہے تو بعض نادان کہتے ہیں کہ بندہ خود مضبوط ہو ماحول کچھ نہیں کہتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ ماحول ہی مضبوطی کو کمزوری میں بدلتا ہے، جب ہر کوئی عشق معشوقی کرتا پھر رہا ہو اور بے حیائی کے کھلے مواقع ہوں اس وقت دل کو وہی قابو میں رکھ سکتا ہے جو اللہ عزوجل کا ولی ہے اور جو اللہ عزوجل کا ولی ہوتا ہے وہ خود کو اس طرح کی ہلاکت والی جگہوں پر پیش نہیں کرتا۔

اسلام اور حیا

اسلام نے حیا کو لازم قرار دیا ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے حیا کو ایمان کی بنیاد قرار دیا چنانچہ ترتیب الامالی الخمیسۃ للشجرى میں یحییٰ بن الحسین (المتوفی 499ھ) لکھتے ہیں ”عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، ورأسه الحياء، وماله الفقه، وثمرته العمل“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان ننگا ہے اور تقویٰ اس کا لباس ہے، حیا اسکی بنیاد ہے، فقہ اسکا مال ہے اور عمل اس کا ثمرہ ہے۔

(ترتیب الامالی الخمیسۃ للشجرى، جلد 1، صفحہ 47، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

رہتے ہیں، یہ سخت حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”ایک عورت زانیہ اپنے گناہ سے ایک عالم متدین کے ہاتھ پر تائب ہوگئی ہے لیکن اب بھی چند ایک آدمی اسی کی برادری میں سے اس کو گزشتہ گناہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور میرا سمجھ کر اس کو اس کے خاوند کے گھر میں آباد نہیں ہونے دیتے حالانکہ اس کا خاوند اس کے آباد کرنے میں راضی ہے۔ ایسے اشخاص کے واسطے از روئے شرع شریف کیا حکم ہے؟“

جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”گناہ سے توبہ کرنے والے کو اگلے گناہ سے عیب لگانا سخت حرام ہے ایسے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مرے گا جب تک خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہو“ اخرج الترمذی وحسنه عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من غیر اخاه بذنب لم یمت حتی یعملہ قال المناوی المراد من ذنب قد تاب منه کما فسره به ابن منیع اه، وقد جاء کذا مقیدا فی روایة ذکرها فی الشرعة قاله فی الحدیقة الندیة“ امام ترمذی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت فرمائی جبکہ امام ترمذی نے اس حدیث کی تحسین فرمائی جو کوئی اپنے بھائی کو کسی گزشتہ گناہ پر عار دلانے وہ نہ مرے گا مگر جبکہ خود اس گناہ کا مرتکب ہو، امام مناوی نے فرمایا کہ حدیث پاک میں گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے کرنے والے نے توبہ کر ڈالی، جیسا کہ ابن منیع نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت میں ذنب کے ساتھ قید مذکور ہے جس کو شرعۃ الاسلام میں نقل فرمایا۔ چنانچہ حدیقہ ندیہ میں اس کو بیان فرمایا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 328، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”الإيمان عريان وزينته الحياء ولباسه التقوى وماله الفقه“ ترجمہ: ایمان ننگا ہے اور حیا اس کی زینت ہے، تقویٰ اس کا لباس ہے اور فقہ اس کا مال ہے۔

(کنز العمال، کتاب الايمان، الفصل الثاني في المجاز والشعب، جلد 1، صفحہ 35، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بے حیائی ایمان کی بربادی کا سبب ہے۔ شعب الإيمان کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔

(شعب الإيمان، الحياء، جلد 10، صفحہ 166، مكتبة الرشد، الرياض)

شعب الإيمان کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغیضا مبغضا، أو نزع الله منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه ريقه الإسلام، وإذا نزع منه ريقه الإسلام لم تلقه إلا شیطانا مریدا“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اس میں سے حیا کو نکال لیتا ہے۔ جب اس میں سے حیا نکال دیتا ہے تو تم اس کو نہیں ملو گے مگر اس طرح کہ وہ تمہیں ناپسند کرے گا اور تم اس کو۔ یا اللہ عزوجل اس سے امانتداری کو

نکال دے گا، جب اس میں سے امانتداری نکل جائے گی تو اس میں سے رحمت بھی نکل جائے گی۔ جب اس میں سے رحمت نکل جائے گی تو اس میں سے اسلام کی رسی بھی نکل جائے گی، جب اس میں سے اسلام کی رسی نکل جائے گی تو وہ سرکش شیطان ہو جائے گا۔

(شعب الإيمان، الحياء، جلد 10، صفحہ 165، مكتبة الرشد، الرياض)

بے حیائی اور کفر

بے حیائی کے سبب ایمان چلے جانے کی مثال یوں ہے کہ بے حیائی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت بے پردہ رہے اور مرد عورت کی بے پردگی پر عار محسوس نہ کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بے پردگی کو جائز سمجھے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بے پردگی کو جائز سمجھنے کے ساتھ ساتھ پردہ پر طعن کرے اور بے حیائی کو فروغ دے جیسا کہ آجکل کے بے دینوں کا شیوا ہے کہ وہ بے غیرتی کی منازل طے کرتے کرتے کفر تک چلے جاتے ہیں۔ لہذا حیا ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ زنا جیسے معاشرتی فساد کو ختم کرتی ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ”عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے۔ بے حیائی جفا (ظلم و زیادتی) ہے اور جفا جہنم میں لیجانے والا ہے۔

(جامع ترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في الحياء، جلد 3، صفحہ 433، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بعض پڑھے لکھے جاہلوں اور بے حیا لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اسکول کالج کی تعلیمات میں سیکس کی تعلیم بھی ہونی چاہئے، اس کے فوائد میں

ایسی عورت سے زنا کرنے اور عورتوں کے دلوں میں ایسے مرد سے زنا کروانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر جب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو، بے حیا مرد کا اپنی بیوی کو دوستوں سے ملوانا ہو تو یہ فعل اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے دوست کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور سہیلی بیوی کی سوکن بن جاتی ہے۔

میاں بیوی کا خفیہ باتیں دوستوں میں کرنا

شریعت نے میاں بیوی کی خفیہ باتیں دوسروں کو بتانے سے سخت منع کیا ہے کہ یہ بے حیائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها“ ترجمہ: قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین درجہ والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر اس کا راز ظاہر کرے۔

(صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، جلد 2، صفحہ 1060، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مرقاۃ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں ”قال بعض الأدباء: أريد طلاق امرأتی فقيل له لم؟ فقال: كيف أذكر عيب زوجتي؟ فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ قال كيف أذكر عيب امرأة أجنبية“ ترجمہ: بعض ادباء نے فرمایا: ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ اس نے فرمایا میں تم اجنبی سے کیسے اپنی بیوی کا عیب ذکر کرو۔ جب اس نے طلاق دے دی تو پھر اس سے کہا گیا

جاہل کہتے ہیں کہ اس میاں بیوی کے تعلقات میں خوشگوااری آئے گی، یہ سیدھا سیدھا انگریزوں کے کلچر کو فروغ دے کر مسلمانوں کو بے حیا بنانا ہے جس کے نقصانات انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ جس عورت کو سیکس کی تعلیم حاصل ہوگی پاکستانی شوہر اس کے کریکٹر پر شک کرتا رہے گا۔ الغرض اس طرح بے حیائی کو معاشرے کی بہتری سمجھنا انتہائی جہالت ہے۔ بے حیائی میں معاشرتی کامیابی نہیں بلکہ حیا میں کامیابی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ماکان الفحش فی شیء قط الا شانہ وماکان الحياء فی شیء قط الا زانہ“ ترجمہ: فحش جب کسی چیز میں دخل پائے گا اسے عیب دار کر دے گا اور حیا جب کسی چیز میں شامل ہوگی اس کا سنگا کر دے گی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحياء، جلد 2، صفحہ 1400، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي) ہمارے کئی بے حیا لیڈر صاحب اقتدار ویلنٹائن ڈے، میرا تھن ریس، بسنت، ڈانس کلب وغیرہ پروگراموں کو فروغ دے رہے ہیں جو بے حیائی کے اڈے ہیں اور ان کا وبال ان فروغ دینے والوں پر بھی ہے اور یہ ان لوگوں کی بے حیا ہونے کی سند ہے کہ یہ بے حیائی کو فروغ دیتے ہوئے حیا داروں پر طعن کرتے ہیں۔ بے حیا لوگوں کا یہی شیوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذالم تستحی فاصنع ما شئت“ ترجمہ: جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔

(المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبید، جلد 5، صفحہ 104، دار الحرمین، القاہرہ)

بے حیائی کی تباہ کاریاں

پھر بعض اوقات بے حیا لوگ بے حیائی کی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جیسے مرد اپنی بیوی کے جسم و حسن کی باتیں اپنے دوستوں میں کرتا ہے یا عورت اپنے مرد کے خفیہ راز اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، جس کے سبب دوستوں کے دلوں میں

کہ اب تو بتا دو کہ اسے طلاق کیوں دی؟ تو اس نے کہا اب وہ میری بیوی نہیں رہی تو کسی اجنبیہ عورت کے عیب کا ذکر کیسے کروں۔

(مرقلة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب المباشرة، جلد 5، صفحہ 2093، دار الفكر، بیروت)

ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں عام کرنے کے متعلق فرمایا ”ہل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ مثل الشيطان والشيطانة لقي أحدهما صاحبه في سكة، ففضى منها حاجته والناس ينظرون، وقال: ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة“ ترجمہ: کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے والا کس کی مثل ہے؟ شیطان اور شیطانہ کی مثل ہے کہ وہ دونوں کسی گلی میں ملے اور شیطان نے شیطانہ سے حاجت پوری کی اور لوگوں نے ان دونوں کو دیکھا۔ خبردار! کوئی مرد دوسرے مرد سے میاں بیوی کے جماع کی باتیں نہ کرے اور عورت دوسری عورت سے نہ کرے۔

(السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله، جلد 7، صفحہ 314، دار الكتب العلمية، بیروت)

بیوی کو اسکے شوہر سے بدظن کرنا

اسی طرح دوست یا کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کر کے خود نکاح کرنے کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خيب امرأة على زوجها“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم میں سے نہیں ہے وہ جو بیوی کو اس کے شوہر سے بگاڑ دے۔

(المعجم الأوسط، باب الالف، من اسمه أحمد، جلد 2، صفحہ 223، دار الحرمین، القاہرہ)

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”میسرہ قال کان رجل من بنی اسرائیل

من عباد بنی اسرائیل يعمل بالمسحاة وکانت له امرأة من أحمل نساء بنی اسرائیل فبلغ جبارا من جبابرة بنی اسرائیل جمالها فأرسل إليها عجوزا فقال حبيبها عليه وقولي لها ترضين أن تكونی عند مثل هذا الذی يعمل بالمسحاة ولو كنت عندی لحليتک بالذهب وکسوتک بالحرير وأخذمتک الخدم یعنی فقالت لها وکانت تقرب إليه فطره وتفرش له فراشا فلم تفعل وتغيرت عليه فقال يا هنتاه ما هذا الخلق الذی لا أعرفه قالت هو ما ترى قال فطلقها فتزوجه جبار بنی اسرائیل فلما دخلت عليه وأرخت الستور عمی وعمیت فأهوى بيده ليلمسها فجفت يده وأهوت بيدها تلمسه فجفت يدها وصما وخرسا ونزعت منهما الشهوة فلما أصبحت رفعت الستور فإذا هم صم عمی وخرس فرجع خبرهما إلى نبی بنی اسرائیل فرجع خبرهما إلى الله تعالى فقال إني لست أعفّر لهما أبدا ظنا أن ليس بعینی ما عملا بصاحب المسحاة“ ترجمہ: حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بیچلے بنانے کا کام کرتا تھا اور اس کی بیوی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب اس بیوی کے حسن کا بنی اسرائیل کے سرکشوں میں سے ایک سرکش کو پتہ چلا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو اس کی بیوی کے پاس بھیجا اور اس بوڑھی کو کہا کہ اس عورت کو اپنے شوہر سے بدظن کرو اور اسے کہو کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم بھی اسی کی مثل ہو جاؤ جو بیچلے بنانے والا ہے۔ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تجھے سونے کا زیور، ریشم کا کپڑا پہناتا، اور تیری خدمت میں نوکر رکھتا۔ جو وہ بوڑھی چلی گئی تو وہ بیوی جو شوہر کے قریب تھی، اس کے لئے بستر اچھاتی تھی، اس نے یہ کام نہ کئے اور اپنے شوہر سے بدظن ہو گئی۔ شوہر نے کہا اے عورت تمہارا یہ

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جلد 2، صفحہ 128، مؤسسة قرطبة، القايرة)
 المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے "عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: فأما الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة: فالعاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة تشبه بالرجال، وأما الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم: فالعاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى" تین شخص کبھی جنت میں نہ جائیں گے اور تین ہیں کہ جن کی طرف اللہ عزوجل قیامت والے دن نظر نہیں فرمائے گا۔ وہ تین جو جنت میں نہ جائیں گے (وہ تین یہ ہیں) والدین کا نافرمان، دیوث اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے۔ اور وہ تین جن کی طرف اللہ عزوجل نظر نہ فرمائے گا، والدین کا نافرمان، عادی شرابی اور احسان کر کے جتلانے والا۔

(المعجم الأوسط، باب الالف، باب من اسمه إبراهيم، جلد 3، صفحہ 51، دار الحرمين، القايرة)

شعب الایمان کی حدیث پاک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر فقالوا: يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث من الرجال؟، قال الذي لا يبالي من دخل على أهله". "قلنا: فالرجلة من النساء؟، قال التي تشبه بالرجال" ترجمہ: تین قسم کے لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے۔ مردوں میں دیوث، عورتوں میں سے مردانہ وضع قطع رکھنے والی اور عادی شرابی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! عادی شرابی کا تو ہمیں پتہ ہے، مردوں میں دیوث کیا ہے: فرمایا: جو اس کی پرواہ

اخلاق میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ عورت نے کہا یہی کچھ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ شوہر نے عورت کو طلاق دیدی اور عورت نے اس بنی اسرائیل کے متکبر شخص سے نکاح کر لیا۔ جب یہ عورت اس شخص کے ساتھ تہا ہوئی تو مرد و عورت دونوں اندھے ہو گئے۔ جب مرد نے عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا اور عورت نے مرد کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عورت کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا اور دونوں گونگے بہرے ہو گئے اور دونوں میں سے شہوت کو اٹھا لیا گیا۔ جب دونوں نے صبح کی اور پردے ہٹے تو وہ گونگے بہرے اور اندھے تھے۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے نبی علیہ السلام تک پہنچی تو اس نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا تو اللہ عزوجل نے فرمایا میں ان دونوں کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے گمان کیا اللہ عزوجل انہیں نہیں دیکھ رہا جو انہوں نے اس بیلچے بنانے والے کے ساتھ کیا ہے۔

(ذم السہوی، صفحہ 286)

دُث

کئی لوگ اپنی بیوی سے اپنے دوستوں کو متعارف کرواتے ہیں، خوب بے پردگی ہوتی ہے، بلکہ مرد و عورت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جس سے کوئی اعراض نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ دیوث ہیں۔ مسند احمد کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الحبث" ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام فرمایا ہے:۔ (1) عادی شرابی (2) ماں باپ کا نافرمان (3) دیوث جو اپنے اہل کی بے حیائی پر کچھ نہیں کہتا۔

بے حس کیا جا رہا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے جن گھروں میں کبھی فلم نہیں لگی تھی، آج انہی کی اولاد اپنی جوان بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر گندے مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسے کوئی عیب نہیں جانا جاتا، اشتہارات میں لڑکا لڑکی کی دوستیاں دکھائی جاتی ہیں اور موبائل اشتہارات تو دیئے ہی عشق معشوقی کے لئے جاتے ہیں۔ الغرض رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی بے حیائی کے سبب مسلمانوں میں یہ احساس ہی ختم ہو رہا ہے کہ یہ فعل بے حیائی ہے، لوگ اسے معمول کا کام سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ یہ سب حیا کو چھوڑنے کا انجام ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو عنقریب یورپ ممالک کی طرح پاکستان میں بھی یہ ہوگا کہ عشق معشوقی میں بچہ پہلے پیدا ہوگا اور نکاح بعد میں ہوگا اور لوگ اسے بھی معیوب نہیں سمجھیں گے۔ اللہ عزوجل ہم مسلمانوں کو ایسی سوچ و عمل سے بچائے۔

معاشرے کی ترقی بے حیا ہونے میں نہیں ہے بلکہ باحیا ہونے میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”الحیاء لا یأتی إلا بخیر“ ترجمہ: حیا خیر ہی لاتی ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الادب، باب الحیاء، جلد 8، صفحہ 29، دار طوق النجاة، مصر)

میڈیا والے بے حیائی کو فروغ دے کر پیسے تو کمارہے ہیں جو بظاہر دنیاوی زیادتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ نیکیوں کی بہت بڑی کمی ہے۔ ”الحکم الکبیر میں ہے“ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الحیاء والعفاف والعی عی اللسان لا عی القلب، والعمل من الإیمان، وإنهن یزندن فی الآخرة وینقصن من دنیا، ولما یزندن فی الآخرة أكثر مما ینقصن فی دنیا، فإن الشح، والبذاء من النفاق، وإنهن یزندن فی دنیا وینقصن من الآخرة، ولما ینقصن فی الآخرة أكثر مما

نہیں کرتا کہ اس کے اہل کے پاس کون داخل ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، عورتوں میں رجلہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ عورت جو مردوں سے مشابہت کرتی ہے۔

(شعب الایمان، الزہد و قصر الامل، فصل فی الزہد، جلد 13، صفحہ 261، مکتبۃ الرشد، الریاض)

یورپی ممالک کی بے حیائی کو پسند کرنے والوں پر حکم

مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو مغرب ممالک میں ہونیوالی بے حیائی کو پسند کرتے ہیں۔ بے حیائی کے ماحول کو پسند کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود بے حیائی کرنا۔ مسند الشہاب کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من أحب عمل قوم خیرا کان أو شرا کان کمن عملہ“ ترجمہ: جو کسی قوم کی نیکی یا بدی کو پسند کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس پسند کرنے والے نے وہی عمل کیا۔

(مسند الشہاب، من أحب عمل قوم خیرا کان أو شرا کان کمن عملہ، جلد 1، صفحہ 259، مؤسسة الرسالة، بیروت)

لہذا یہ نہ کہا جائے کہ یورپین ممالک میں فلاں فلاں کام ہوتا کہ کہیں اس برائی میں مسلمان بھی شریک نہ ہو بلکہ جہاں نیک کام ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے جیسے حج کے دنوں میں کہا جائے کاش ہم بھی مکہ، مدینہ میں ہوتے، کوئی دینی محفل میں نہ جا پائیں تو حسرت کریں کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے، یہ حسرت بھی باعث اجر ہے۔

دوسرا سبب: میڈیا

زنا کا دوسرا بڑا سبب میڈیا ہے جس میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سب شامل ہیں۔ غیر مسلموں کے میڈیا کو دیکھا دیکھی پاکستانی میڈیا بھی بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے اور اسے میڈیا اور معاشرے کی ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو بے حیائی کے معاملہ میں

یزدن فی الدنيا“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حیا، پاک دائمی اور کمزوری وہ کمزوری جو زبان کی ہونہ کہ دل کی اور اعمال ایمان میں سے ہیں۔ یہ اوصاف آخرت (کے حصے) میں اضافہ کرتے ہیں اور دنیا (کے حصے) میں کمی کرتے ہیں۔ اور جب یہ آخرت (کے حصے) میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ دنیا میں ہونے والی کمی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک بخل و بے حیائی نفاق سے ہیں اور یہ دنیا میں اضافہ کرتے ہیں اور آخرت میں کمی کرتے ہیں، اور جب یہ آخرت میں کمی کرتے ہیں تو وہ کمی دنیا میں ہونے والی زیادتی سے زیادہ ہوتی ہے۔

(المعجم الكبير، باب القاف، إياس بن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده، جلد 19، صفحہ 29، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

یہ میڈیا کی لگائی ہوئی آگ ہے کہ آج تین چار سال کی بچیوں کے ساتھ بد فعلی کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو قبروں سے نکال کر بد فعلی کی جا رہی ہے۔ جب میڈیا میں عریانی عام ہو جائے گی تو اس کے اثرات لوگوں کے ذہنوں پر بھی پڑیں گے اور ان کے اندر چھپی شہوت جاگے گی جسے سولانے کے لئے وہ ایسے فتیح افعال کریں گے۔ جب میڈیا اتنا عام نہیں تھا، ٹی۔وی چینلز صرف دو تین تھے، اس وقت اس طرح کے واقعات سننے کو نہیں ملتے تھے۔ پھر اگر کسی مظلوم عورت سے زیادتی ہو تو اپنے چینل کی مشہوری کے لئے اس مسئلہ کو خوب اچھالا جاتا ہے جسے نہیں پتہ ہوتا اسے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس عورت سے زیادتی ہوئی ہے۔ الختصر ٹی۔وی، موبائل وغیرہ سب زنا کی ترقی کا بہت بڑا سبب ہیں۔

تیسرا سبب: والدین کی لاپرواہی

معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی میں والدین کی لاپرواہی کا بھی بہت بڑا

ہاتھ ہے۔ اپنے جوان بچے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھنا بلکہ معاذ اللہ گندے مجرے دیکھنا، بچے کے سمجھار ہونے کے باوجود ان کے سامنے میاں بیوی کا جماع کرنا، کپڑے بدلنا، والد کا گندی فلمیں دیکھنا اور بچوں کا اسی فلموں کو بعد میں خود دیکھنا وغیرہ بچوں کے خراب ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے سکولز کالجز میں داخل کیا جاتا ہے جہاں مخلوط تعلیم Co Education رائج ہے، اپنی جوان بچیوں کو مرد استادوں سے دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائی جاتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کس جگہ جاتے ہیں کس قسم کے دوستوں سے تعلقات ہیں، بچیاں موبائل پر کئی کئی گھنٹے کس سے بات کرتی ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جوان بچیوں کو پردے کی تلقین نہیں کی جاتی، کئی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ شادیوں پر اپنی بچیوں کو پردہ کرنے نہیں دیتے تاکہ کوئی ہماری بچی کو نکاح کے لئے پسند کر لے۔ لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

بچیوں کو ان کے کزنوں کے سامنے بے پردہ آنے سے روکا نہیں جاتا بلکہ معاذ اللہ جو دینی سوچ کی عورت ایسے غیر محرم مردوں سے پردہ کرے الٹا اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہی کزن جب آپس میں بدکاری کرتے ہیں اور والدین کی عزت نیلام کرتے ہیں تب والدین کو ہوش آتی ہے۔ والدین کی اس طرح کی بے پرواہی کے انجام پر کئی واقعات دیکھنے سننے میں آتے ہیں۔

ایک واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچی نے ایف۔اے کے پیپر دیئے اور کچھ مہینوں کے لئے فارغ تھی۔ اس کے ایک کزن کا اپنا کمپیوٹر کالج تھا، اس نے لڑکی کے والدین سے کہا آپ اپنی بیٹی کو میرے کالج میں داخل کروادیں، میں اس کو کمپیوٹر سیکھا دوں گا۔ والدین نے بخوشی اپنی بچی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی،

ایک دن اس لڑکے نے اس طرح کی شرارت کی کہ کمپیوٹر میں گندی تصویریں رکھ دیں، جب لڑکی نے کمپیوٹر چلایا تو وہ تصویریں خود بخود سامنے آ گئیں، پیچھے سے اس نے کہا تم اس طرح کی گندی تصویریں دیکھتی ہو، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، میں تمہارے والد سے کہوں گا، لڑکی نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ تصویریں کیسے آ گئی ہیں، آپ اس کا تذکرہ گھر نہ کرنا، لڑکے نے مزید چالاکی کھیلنے سے لڑکی سے کہا اگر تمہیں اس طرح کی تصویروں کا شوق ہے تو مجھے بتا دیتی میں تجھے اور دیکھا دیتا، لڑکی نے کہا میرا یقین کر دو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ بہر حال لڑکے کی چال چل گئی اور وہ لڑکی کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لڑکی اس سے متنفر ہوتی گئی اور کالج جانا چھوڑ دیا۔ لڑکا لڑکی کو لینے آیا تو لڑکی نے کہا کہ میں نے نہیں جانا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر والوں نے کہا یونہی بہانے بنا رہی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لڑکے نے گھر والوں سے کہا آج اس کا ٹیسٹ ہے اس لئے اسے لازمی جانا ہوگا، اس پر بے وقوف والدین لڑکی کو زبردستی کالج بھیج دیا۔ کالج جا کر لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ اگر تم مجھے ایک بوسہ دیدو تو میں تجھے تنگ کرنا چھوڑ دوں گا، لڑکی نے جان چھڑانے کے لئے حماقت یہ کی کہ اسے ایک بوسہ دے دیا۔ لڑکے نے بوسہ لیتے وقت کی مووی بنالی اور لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں تیرے والدین کو یہ مووی دیکھا دوں گا۔ اب لڑکی نے والدین سے ڈرتے ہوئے دوسرے بڑی بے وقوفی یہ کی کہ اس نے منہ کالا کروانا شروع کر دیا۔

اس طرح کے اور کئی واقعات آئے دن اخبارات وغیرہ میں آتے ہیں کہ اولاد اور پردہ پر توجہ نہ دینے کے سبب معاشرے و خاندان میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنی نو دس سال کی بچی کو باہر سودا سلف لانے کے لئے بھیجتے ہیں، کوئی چیز

بانٹنی ہو تو ان کے ہاتھ لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں، یہ والدین کی بہت بڑی نادانی ہے، پھر جب کوئی نازیبا واقعہ ہوتا ہے تو اپنی حرکتوں پر پچھتاتے ہیں اور بچی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ والدہ کو چاہئے کہ طریقے سے اپنی بچی کو معاشرے میں ہونے والے اس طرح کے واقعات سے باور کروائے جس میں مرد چالاکی سے عورت کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں جیسے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور چیز ملا کر لڑکیوں سے بد فعلی کی جاتی ہے وغیرہ۔

چوتھا سبب: شادی میں تاخیر

شادی میں تاخیر بھی زنا میں پڑنے کا سبب ہے۔ جن بچوں اور بچیوں کا نکاح والدین یا بھائی وقت پر نہیں کرتے تو وہ بعض اوقات زنا کے سبب اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ حکم یہی ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کا والد اس کا نکاح کر دیں اگر والد حیات نہیں تو اس کے اولیاء بھائی وغیرہ اس کا نکاح کر دیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من ولد له ولد فلیحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فلیزوجہ“ ترجمہ: جس کے بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اسے اچھی تعلیم دے پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔

(شعب الایمان، حقوق الاولاد والاهلین، جلد 11، صفحہ 137، مکتبۃ الرشید، ریاض)

شادی میں تاخیر پر والد پر وبال

اگر اولاد پر نکاح کرنا شرعی طور پر فرض و واجب ہو چکا ہے (یعنی نفس پر کنٹرول نہیں اور زنا میں پڑنے کا غلبہ ظن ہے یا یقینی طور پر زنا میں پڑ جائے گا) اور ان کے والد یا اولیاء نکاح نہیں کرتے تو اس صورت میں والد یا اس کے اولیاء گنہگار ہوں گے۔ امام احمد

رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جنہیں اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو انہیں اگر نکاح کی حاجت شدید ہے کہ بے نکاح کے معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہونے کا نطن غالب ہے تو ایسی عورتوں کو نکاح کرنا واجب ہے۔ بلکہ بے نکاح معاذ اللہ وقوع حرام کا یقین گلی ہو تو انہیں فرض قطعی یعنی جبکہ اُس کے سوا کثرت روزہ وغیرہ معالجات سے تسکین متوقع نہ ہو ورنہ خاص نکاح فرض و واجب نہ ہوگا بلکہ دفع گناہ جس طریقہ سے ہو۔“

حکم ایسی عورتوں کو پیش نکاح پر جبر کیا جائے اگر خود نہ کریں گی وہ گنہگار ہوں گی اور اگر ان کے اولیاء اپنے حدم مقدور تک کوشش میں پہلو تہی کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، صفحہ 291، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اگر والد بلا عذر شرعی نکاح نہ کرے اور اولاد زنا وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو اولاد کے ساتھ ساتھ اس کا وبال والد پر بھی ہوگا۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”فإذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب إثمًا، فإنما إثمہ علی أبیہ“ ترجمہ: پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا اور اس کا نکاح نہ کیا اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے۔

(شعب الایمان، حقوق الاولاد والاہلین، جلد 11، صفحہ 137، مکتبۃ الرشید، ریاض)

بیٹی کا نکاح جلد کرنے کی تاکید ہے ”عن عمر بن الخطاب، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: مکتوب فی التوراة: من بلغت له ابنة اثنتی عشرة سنة فلم یزوجها فرکت إثمًا فإنم ذلك علیہ“ ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: توراہ شریف میں مذکور ہے کہ جس کی بیٹی بارہ برس کی عمر کو پہنچے اور وہ اس کا نکاح نہ کر دے اور یہ دختر گناہ میں مبتلا ہو تو اس

کا گناہ اس شخص پر ہے۔

(شعب الایمان، حقوق الاولاد والاہلین، جلد 11، صفحہ 138، مکتبۃ الرشید، ریاض)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ اس صورت میں ہے کہ بچہ غریب ہو خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو اور اگر باپ امیر ہو، اولاد کا نکاح کر سکتا ہے، مگر لا پرواہی یا امیر کی تلاش میں نکاح نہ کرے، تب بچہ کے گناہ کا وبال اس لا پرواہ باپ پر ہوگا۔ کیونکہ باپ کی کوتاہی اس کے گناہ کا سبب ہے، خیال رہے کہ یہاں ”انما جبلی“ گناہ کے حصر کے لیے ہے نہ کہ کسی گناہ کے حصر کے لیے یعنی ذریعہ گناہ بننے کا وبال صرف باپ پر ہوگا اگرچہ کسب گناہ کا وبال خود بچہ پر ہے۔ اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو محض امیروں کی تلاش میں بچی کا نکاح عرصہ تک نہیں کرتے۔“

(مرآة المناجیح، جلد 5، صفحہ 30، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

بیوہ کا نکاح کرنا اور نہ کرنا کب بہتر ہے؟

اگر عورت بیوہ ہو اور اسے بھی زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو تو اس پر بھی نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اوپر ذکر کی گئی حدیث پاک کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں: ”جب کنواری لڑکیوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو بیاہیوں کا معاملہ تو اور بھی سخت کہ دختر ان دو شیزہ کو حیا بھی زائد ہوتی ہے اور گناہ میں تفضیح کا خوف بھی زائد اور خود ابھی اس لذت سے آگاہ نہیں صرف ایک طبعی طور پر ناواقفانہ خطرات دل میں گزرتے ہیں اور جب آدمی کسی خواہش کا لطف ایک بار پانچ کا تو اب اس کا تقاضا رنگِ دگر پر ہوتا ہے اور ادھر نہ ویسی حیاندہ خوف و اندیشہ۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کو ہدایت بخشے، آمین۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 12، صفحہ 290، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا بیوہ عورت کو اگر نکاح کی حاجت ہو تو نکاح کر لے البتہ اگر کوئی بیوہ عورت کو

اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہے زنا میں پڑنے کا خدشہ نہیں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی تو اس کی شریعت میں فضیلت وارد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ایما امرأة قعدت علی بیت اولادھا فہی معی فی الجنة“ ترجمہ: جو عورت اپنی اولاد پر بیٹھی رہے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔

(أمالی ابن بشران، مجلس یوم الجمعة السادس والعشیرین من شوال سنة خمس وعشرین، صفحہ 379، دار الوطن، الرياض)

سنن ابوداؤد میں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”أنا وامرأة سفعاء الخدین کھاتین یوم القيامة وأوما یزید بالوسطی والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب، وجمال، حبست نفسها علی یتاما حتی بانوا أو ماتوا“ ترجمہ: میں اور چہرہ کارنگ بدلی ہوئی عورت روز قیامت ان دو انگلیوں کے مثل ہوں گے (راوی نے انکشت شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا یعنی جیسے یہ دو انگلیاں پاس پاس ہیں یونہی اسے روز قیامت میرا قرب نصیب ہوگا) وہ عورت کہ اپنے شوہر سے بیوہ ہوئی عزت والی، صورت والی کہ اُس نے اپنے یتیم بچوں پر اپنی جان کو روک رکھا یہاں تک کہ وہ بچے سمجھا رہے ہوں گے یا وہ مر گئے۔ (یعنی یتیم بچوں کو لئے نہیں دیا۔)

(سنن ابی داؤد، باب فی فضل من عال یتیمًا، جلد 4، صفحہ 338، المكتبة العصرية، صیدا، بیروت)

ابویعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”انا اول من یفتح باب الجنة الا انی اری امرأة تبادرنی فاقول لھا مالک ومن انت فتقول انا امرأة قعدت علی ایتام لی“ ترجمہ: سب سے پہلے جو

دروازہ جنت کھولے گا وہ میں ہوں مگر میں ایک عورت کو دیکھوں گا کہ مجھ سے آگے جلدی کرے گی میں فرماؤں گا تجھے کیا ہے اور تو کون ہے، وہ عرض کرے گی میں وہ عورت ہوں کہ اپنے تیبوں پر بیٹھی رہی۔

(مسند أبی یعلیٰ، شہر بن حوشب، عن أبی ہریرة، جلد 12، صفحہ 7، دار المأمون للتراث، دمشق)

تنبیہ: اولیت مطلقہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے، دروازہ کھلانا حضور والا ہی کے لئے ہوگا، رضوان دارِ رونمہ جنت عرض کرے گا مجھے یہی حکم تھا کہ حضور سے پہلے کسی کے لئے نہ کھولوں، حضور پر کوئی نبی مرسل بھی تقدیم نہیں پاسکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

پانچواں سبب: میاں بیوی میں دوری

میاں بیوی میں دوری ہونا بھی زنا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایک تعداد ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے باہر کے ممالک میں محنت مزدوری کرتی ہے اور ادھر ان کے بیویاں شوہر کا مال کھا کر زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بغیر طلاق دوریاں ہوئی ہوتی ہیں اور پھر یہ دوری زنا کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح اگر شوہر عیاش ہے بیوی کے قریب نہیں آتا تو بدلے کے طور پر بیوی بھی زنا میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا شوہر کا بیوی کو چھوڑے رکھنا اور صحبت نہ کرنا حلال نہیں، پہلی مرتبہ شوہر کا صحبت کرنا واجب ہے اور گاہے بگاہے صحبت کرتے رہنا بھی دیانتہً واجب ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”واعلم أن ترک جماعها مطلقاً لا یحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحياناً واجب دیانتہً، لکن لا یدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم یقدروا فیہ مدۃ ویجب أن لا یبلغ بہ مدۃ الإیلاء إلا برضاها وطیب نفسها بہ

وفى البدائع: لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبتة يجب عليه ملخصاً“ ترجمہ: جان لو کہ بیشک مطلقاً بیوی سے جماع کو چھوڑنا شوہر کے لئے حلال نہیں ہے۔ ہمارے اصحاب (یعنی احناف کے علماء) نے صراحت کی ہے کہ کبھی کبھار شوہر پر اپنی بیوی سے صحبت کرنا دیانہ واجب ہے، لیکن یہ قضاء والزام میں داخل نہیں ہے (یعنی قاضی اسے مجبور نہیں کرے گا۔) مگر پہلی مرتبہ بیوی سے صحبت کرنا قضاء بھی واجب ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور واجب یہ ہے کہ مدت ایلاء تک نہ ہو (یعنی چار ماہ تک بغیر جماع کئے نہ رہے) مگر یہ کہ عورت چار ماہ سے زائد شوہر سے دور رہنے پر خوشی کے ساتھ راضی ہو۔ بدائع میں ہے کہ بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ شوہر سے جماع کا مطالبہ کرے کیونکہ شوہر کا اس کیلئے حلال ہونا اس کا حق ہے۔ جیسا کہ بیوی کا حلال ہونا شوہر کا حق ہے۔ جب بیوی شوہر سے جماع کا مطالبہ کرے تو شوہر پر جماع کرنا واجب ہے (جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔)

(رد المحتار، کتاب النکاح، باب القسم بین الزوجات، جلد 3، صفحہ 202، دار الفکر، بیروت)

چار ماہ سے زائد شوہر بیوی سے دور نہ رہے

اگر شوہر باہر کے ملک بھی کام کاج کرتا ہے یا ملک میں ہی کوئی پولیس، فوج کی ڈیوٹی کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ حد چار مہینوں تک بیوی کو ملنے آئے۔ ردالمحتار میں ہے ”آن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما سمع فی اللیل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لرحح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها“ ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے ایک رات عورت کو یہ کہتے سنا: اللہ عزوجل کی قسم اگر مجھے عاقبت کا خوف نہ ہوتا تو اس چار پائی سے چرچراہٹ کی آواز آتی (یعنی میں زنا کرتی جس کے سبب اس چار پائی سے ہلنے کی آواز آتی)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا تو اس کا شوہر جہاد میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ عورت بغیر شوہر کے کتنی دیر صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ چار ماہ تک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی لشکر اپنے گھر والوں کو چار ماہ سے زائد پیچھے نہ چھوڑے۔

(رد المحتار، کتاب النکاح، باب القسم بین الزوجات، جلد 3، صفحہ 203، دار الفکر، بیروت)

بلا عذر چار ماہ سے زائد بیوی سے جماع ترک کئے رکھنا ناجائز ہے۔ اگر بیوی راضی ہو تو شوہر چار ماہ سے زائد بھی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر چار ماہ تک شوہر بیوی سے دور رہے تو بیوی کو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں، جب تک شوہر طلاق نہ دے خود بخود طلاق نہیں ہوتی، اگرچہ برسوں گزر جائیں۔

شوہر صحبت کے لئے بلائے تو بیوی پر اطاعت لازم ہے

بیوی پر زیادہ لازم ہے کہ جب شوہر اسے صحبت کے لئے پاس بلائے تو اپنے آپ کو پیش کرے اگرچہ کام کاج کر کے تھکی ہو۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فلم تأت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے، شوہر ساری رات ناراض رہے تو صبح تک عورت

پرفرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، باب فی حق الزوج علی المرأة، جلد 2، صفحہ 244، المكتبة العصرية، بیروت)

ابوداؤد طیالسی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، أن امرأة أتته، فقالت ما حق الزوج علی امرأتہ؟ فقال لا تمنعه نفسها وإن كانت علی ظهر قتب، ولا تعطی من بیته شیئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعلیها الوزر، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أئمت، ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بیته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتی تتوب أو تراجع قیل وإن كان ظالما؟ قال وإن كان ظالما“ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ایک عورت نے پوچھا شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اگرچہ وہ کجاوے پر ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں سے کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شوہر کے لئے ثواب اور عورت کے لئے گناہ ہے۔ سوائے فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گنہگار ہوئی اور کوئی ثواب نہیں۔ بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا نہ لوٹے تو رحمت اور عذاب والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ فرمایا اگرچہ ظالم ہو۔

(ابوداؤد طیالسی، عطاء بن ابی رباح عن ابن عمر، جلد 3، 457، دار بیجر، مصر)

شوہر کو بھی چاہئے بیوی کی صحت و تھکن وغیرہ کا لحاظ کرے، اس سے دلوں میں

محبت بڑھے گی۔

عورت کی شان و فادار ہونا ہے

جن عورتوں کے شوہر روزی روٹی کے لئے باہر کے ممالک یا دور کہیں ہیں، ان عورتوں کو چاہئے کہ وفا کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور دنیا و آخرت میں عزت پائیں کہ عورت وہی صحیح معنوں میں عورت ہے جو بیٹی، بہن اور بیوی ہوتے ہیں وفا کمائے۔ عورت میں اللہ عزوجل نے ایک خاص حس رکھی ہے کہ اسے بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ کون مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر عورت چاہے تو دنیا کا کوئی مرد اس سے بد فعلی نہیں کر سکتا۔ جو عورت اپنی اور اپنے خاندان کی عزت پامال کرنے والی ہو وہ حیا و عورت کے معنی سے دور ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إن الله قسم الحياء عشرة أجزاء فجعل فی النساء تسعة وفى الرجال واحدا ولولا ذلك تساقطن تحت ذکور کم کما تتساقط البهائم تحت ذکورها“ ترجمہ: اللہ عزوجل نے حیا کے دس اجزاء کئے اور نو اجزاء عورتوں میں رکھے اور ایک مردوں میں رکھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عورتیں تمہارے مردوں پر گر پڑتیں (یعنی مردوں سے صحبت کرتیں) جیسے جانوروں میں مادہ زکے نیچے گرتی ہے۔

(کنز العمال، کتاب الاخلاق، الإكمال من الحياء، جلد 3، صفحہ 240، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شعب الایمان کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی

ہے ”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضلت المرأة على الرجل

بتسعة وتسعين جزءا من اللذة، ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء“

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: عورت میں مرد کی

نسبت ننانوے فیصد لذت زیادہ رکھی گئی ہے، لیکن اللہ عزوجل نے ان عورتوں پر حیا کو ڈال

چھٹا سبب: عشق مجازی کا فروغ

اللہ عزوجل اور رسول علیہ السلام کی باہم محبت

کائنات کے وجود کا مقصد رب تعالیٰ کی اطاعت و محبت ہے اور کائنات کے وجود کا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ الاسرار المرفوعہ کی حدیث پاک ہے ”لو لاك لما خلقت الدنيا“ ترجمہ: اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ فرماتا۔

(الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، جلد 1، صفحہ 295، مؤسسة الرسالة، بیروت)

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا ”لو لا محمد ما خلقتك ولا ارضا ولا سماء“ ترجمہ: اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بنا تا نہ زمین و آسمان کو۔

(المواہب اللدنیة، المقصد الاول، جلد 1، صفحہ 70، المكتبة الاسلامی، بیروت)

اسی پر اور بھی کئی احادیث وارد ہیں جس کا حاصل صحیح معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سب کائنات ہیں۔

یہ ہے رب تعالیٰ کی حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت رب تعالیٰ سے ملاحظہ ہو چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذاً من أمتی خلیلاً لاتخذت أبا بکر ولكن أختی وصاحبی“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنا تا تو ضرور حضرت ابو بکر صدیق کو بنا تا مگر وہ میرا دوست اور بھائی ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، جلد 5، صفحہ 4، دار طوق النجاة، مصر)

دیا ہے۔ (شعب الإيمان، الحیاء، جلد 10، صفحہ 175، مکتبۃ الرشد، الریاض)

پاکدامن نیک عورتوں کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”حاملات والذات مرضعات رحیمات باولادهن لولا ما یأتین الی ازواجهن لدخل مصلیا تهن الجنة“ ترجمہ: حمل کی سختیاں اٹھانے والیاں، دودھ پلانے والیاں، جننے کی تکلیف جھیلنے والیاں، اپنے بچوں پر مہربانیں، اگر نہ ہوتی وہ تقصیر جو اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں تو ان کی نماز والیاں سیدھی جنت میں جائیں۔

(المعجم الكبير، سالم بن أبی الجعد عن أبی أمامة، جلد 8، صفحہ 252، مکتبۃ ابن تیمیة، القاہرہ) روضۃ الحخبین میں ہے ”عن أبی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”أیما امرأة اتقت ربها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو عورت اللہ عزوجل سے ڈری اور اپنی عزت کی حفاظت کی اور شوہر کی اطاعت کی، قیامت والے دن اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔

(روضۃ المحبین ونزہۃ المشتاقین، صفحہ 333، دار الکتب العلمیة، بیروت)

عورت کا بے حیا ہونا شیطان کو زیادہ پسند ہے

عورت اگر حیا کے پردے کو پھاڑ دے تو اس کا فتنہ بدکار مردوں سے بڑھ کر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مروی ہے کہ ابلیس کو بدکار عورت، ہزار بدکار مردوں سے زیادہ پسند ہے۔“

(مکاشفة القلوب، صفحہ 181، مکتبۃ اسلامیات، لاہور)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و معنی الحدیث أن حب الله تعالى لم يبق في قلبه موضعا لغيره“ ترجمہ: اس حدیث کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ عزوجل کی محبت نے میرے دل میں کسی اور کے لئے جگہ باقی نہیں چھوڑی۔

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، جلد 15، صفحہ 151، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہو؟

اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ عزوجل اور اسکے رسول سے محبت کی جائے چنانچہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے ”عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ عزوجل اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اوروں سے بڑھ کر نہ ہو۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 20، صفحہ 397، مؤسسة الرسالة، بیروت)

جب اللہ عزوجل اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ محبت کے متعلق کہا گیا کہ وہ اللہ عزوجل اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ ہو تو ایک عورت کی محبت میں اس قدر غرق ہو جانا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے یہ کس قدر تباہ کن ہے اس کا فیصلہ ہم با آسانی کر سکتے ہیں۔

اللہ عزوجل کے رسل، اولیاء کرام سے محبت بھی رب تعالیٰ سے محبت ہے اور جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ عزوجل کی محبت سے منور کیا رب تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو انعامات دیئے انہیں پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے: ”حضرت

رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آگئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا۔ لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکا پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے۔ کیونکہ اگرچہ ایک دوست مجو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔“

(تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 46، ضیاء القرآن، لاہور)

عشق مجازی کی تباہ کاریاں

لیکن افسوس! آج ہماری نوجوان نسل حقیقی محبت کو چھوڑ کر لڑکیوں کے عشق میں غرق ہو گئے اور یہ مردود عشق زنا کا سبب بن گیا۔ آج جسے کوئی کام نہیں وہ عاشق بنا پھرتا ہے۔ ذم الہویٰ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”حدثنا ابن عائشة قال قلت لطبيب كان موصوفا بالحذق ما العشق قال شغل قلب فارغ“ ترجمہ: ہمیں بتایا ابن عائشہ نے کہ میں نے ایک طبیب حاذق سے پوچھا کہ عشق کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فارغ دل کا شغل ہے۔

آج عشق و معشوقی کو جو عروج دیا جا رہا ہے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فلموں، ڈراموں میں جس رنگین انداز میں عشق معشوقی کو پیش کیا جاتا ہے وہ نوجوانوں کے لئے باعثِ فتنہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو عشق و محبت کا پتہ کچھ نہیں، شہوت کو عشق و محبت سمجھ لیا گیا ہے اور

ہر کوئی ہیرا نچھا، سسی پنوں بنا پھرتا ہے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے۔ جب بات لوگوں کی بہن بیٹیوں کی ہوتی ہے تو فخر سے خود کو رانچھا کہا جاتا ہے، محبوبہ کی محبت میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، محبوبہ کی محبت میں کفر یہ اشعار پڑے جاتے ہیں، عشق کو عبادت محبوبہ کو معاذ اللہ خدا کہا جاتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کی بہن، بیٹی سے یارا نہ لگائے تو اسے بہت ناگوار گزرتا ہے، بہر حال یہ سب شیطانی چکر ہے جس میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ملوث ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کیا جاتا ہے کہ آیا عشق معشوقی کا اسلام میں کوئی تصور ہے یا نہیں؟

سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کرنا چاہئے کہ عشق معشوقی پر جو ہیرا نچھا، لیلیٰ مجنوں، شیریں فرہاد، مرزا صاحبہ کے قصے مشہور ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ کئی افسانہ نگاروں اور شعراء نے انہیں رانچ کیا ہے اور بعض اہل علم صوفی حضرات نے بطور تشبیہ و استعارہ کے ان کا استعمال اپنے کلام میں کیا ہے۔ بالفرض اگر یہ واقعات سچے بھی ہوں تو شرعی اعتبار سے سب ناجائز ہیں، شریعت اس طرح کسی کے بہن بیٹی سے عشق لڑانے کی اجازت نہیں دیتی۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ محبت کرنا اور محبت ہونا دونوں میں فرق ہے۔

(1) محبت کرنا یہ ہے کہ پہلے سے اپنے ذہن میں خوبصورت لڑکی کی شکل و صورت کا ایک خاکہ بنانا اور پھر اس کی تلاش شروع کرنا ہے، اپنی عمر کی، اپنی کلاس کی ہر خوبصورت ترین لڑکی پر جال ڈالنے کی کوشش کرنا اور جو اس کے جال میں آگئی تو محبت کی ابتداء ہوگئی اب خود اپنا اور اس کا بیڑہ غرق کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پڑھائی بھی گئی، مستقبل بھی تباہ ہوا، اپنے اور اس کے والدین کو ذلیل و خوار بھی کیا، گھر سے بھاگے تو

بے دین این۔ جی۔ اوز نے قابو کر کے والدین کو اولاد کا دشمن قرار دیا، میڈیا پر اس واقعہ کو اچھا لاتا کہ باہر کے ملک سے این۔ جی۔ اوز کو مزید ایڈ ملے، پھر کورٹ میں نکاح ہو اور چند دنوں بعد طلاق بھی ہوگئی اور عشق کا بھوت سر سے اتر گیا جیسا کہ آجکل اکثر یہی کچھ دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ اس طرح کی محبت کو شیطانی محبت کہا جاسکتا ہے جو شہوت سے شروع ہوتی ہے اور دونوں کی زندگی تباہ کر کے ختم ہوتی ہے۔ یہی شہوت بھرا عشق آجکل رانچ ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگی کو تباہ کیا ہے اور کئی عزت داروں کی عزتوں کو نیلام کیا ہے۔ کئی مرد و عورت کی ازواجی زندگی طلاق کی صورت اسی عشق کی وجہ سے اختیار کر گئی ہے کہ شادی کسی اور سے ہوگئی اور دل کسی اور کی چنگل میں پھسا ہے۔ عام طور پر جو نکاح کے ایک سال کے اندر طلاق ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لڑکی کا چکر کسی اور سے ہوتا ہے اور نکاح کسی اور سے کر لیتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق لے کر پہلے یار کے پاس آتی ہے تو اس کے مطلب کی نہیں رہتی آخر کار اپنی اور گھر والوں کی عزت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ کئی ایسے واقعات سننے، پڑھنے میں آئے ہیں کہ شادی شدہ بچوں کی ماں ہونے کے باوجود گھر بار چھوڑ کر عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور عاشق نے چند دن لذت لے کر چھوڑ دیا نہ آگے کی رہی نہ پیچھے کی۔ اس پر میں اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ کا انجام پیش کرتا ہوں کہ میں ایک دن اپنے پرانے دوستوں سے ملنے گیا تو اچانک ایک عورت پر نظر پڑی جو پاگل تھی، ایک دوست سے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کچھ یوں سارا واقعہ بیان کیا جسے میں اپنی یادداشت کے مطابق لکھتا ہوں کہ یہ عورت کسی کی بیوی تھی اور اسکے بچے بھی تھے، محلے میں کسی مرد سے اس کا یارا نہ چل گیا اور یہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ کافی دن اس کے لے کر کہیں چلا گیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا۔ آخر اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ جب

واپس اپنے شوہر کے پاس آئی تو اس نے بھی بھی دھتکار دیا اور طلاق دیدی۔ یہ عورت اس صدمے سے پاگل ہو گئی اور اب گلی محلے میں رہتی رہتی ہے کئی اوباش قسم کے لڑکے رات کو اسے پکڑ کر اس سے بد فعلی کرتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ اس بد فعلی سے حاملہ بھی ہوئی ہے اور محلے کی بڑی عمر کی عورتیں مل کر اس کا حمل ضائع کروا دیتی ہیں۔ الامان والحفیظ۔

(2) دوسری صورت ہے محبت ہونا کہ کسی عورت پر نظر پڑی اور وہ عورت دل

میں اتر گئی اگر چہ وہ عورت عمر میں بڑی ہو، اگر چہ شادی شدہ ہو، رنگ کی کالی ہو:

بلھے شاہ جتھے دل دتا وتھے کی گوری تے کی کالی اے

شریعت نے اس محبت اعتبار کیا ہے جو شرع کی حدود کو پار نہ کرے یعنی کسی سے محبت ہوگی اب یہ نہیں کہ اس کے گھر کے چکر لگانا شروع ہو گیا کہ کسی طرح یہ بھی قابو میں آجائے، اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اسے دیکھ دیکھ کر بدنگاہی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا بلکہ یوں کیا کہ ناجائز و حرام افعال سے بچا۔ اگر عشق میں شریعت کے نظام کو مضبوطی سے تھامنا نہ جائے تو یہ انسان کی دنیا و آخرت ایسی برباد کرتا ہے کہ ایک عبرت بن جاتا ہے۔ یہی عشق قتل و غارت کرواتا ہے، رشتوں کو ختم کرتا ہے، اللہ عزوجل اور لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہے۔

حضرت علی کا قاتل بد بخت عاشق

اس پر کئی مستند واقعات ہیں، ایک ہی واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

شہادت کا پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی مردود عشق کا ہاتھ تھا چنانچہ ذم الہوی میں ہے ”أن عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله رأى امرأة من تيم الرباب يقال لها قطام وكانت من أجمل النساء ترى رأى

الخوارج قد قتل قومها على هذا رأى يوم النهروان فلما أبصرها عشقها فخطبها فقالت لا أتزوجك إلا على ثلاثة آلاف و قتل على بن أبي طالب فتزوجها على ذلك فلما بنى بها قالت له يا هذا قد فرغت فافرغ فخرج متلبسا سلاحه و خرجت قطام فضربت له قبة في المسجد و خرج على يقول الصلاة الصلاة فأبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه“ ترجمہ: عبد الرحمن بن ملجم اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہو کہ اس نے تیم رباب (ایک جگہ کا نام) کی ایک عورت کو دیکھا جس کو قطام کہا جاتا تھا۔ وہ عورت خارجیوں کی تمام عورتوں سے خوبصورت تھی۔ اس عورت کی رائے پر اس کی قوم نے نہروان کی جنگ (حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کی تھی۔ ابن ملجم اس عورت کو دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے کہا میں تم سے نکاح نہیں کروں گی مگر تین ہزار اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی شرط پر۔ ابن ملجم نے اس کی شرط کو مانتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ جب پہلی رات اس عورت کے ساتھ گزار لی تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنا کام کر لیا تو اپنا کام کر۔ ابن ملجم اسلحہ لگا کر نکلا اور وہ عورت بھی نکلی اور مسجد میں ابن ملجم کے لئے خیمہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف نکلے اور راستے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے رہے۔ ابن ملجم آیا اور اس نے آپ کے سر مبارک پر تلوار ماری اور آپ کو شہید کر دیا۔

(ذم الہوی، صفحہ 461)

سچا عاشق کون؟

اگر عشق شریعت کے دائرے میں نہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ روضۃ المحبین میں

ہے ”قال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبته ثم لم يحفظ

حدودہ“ ترجمہ: حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ شخص سچا نہیں جو محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبت کی حدود کی حفاظت نہ کرے۔

(روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، صفحہ 409، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضور پر نور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”اذا وجدت فی قلبک

بغض شخص او حبه فاعرض افعاله علی الکتب والسنة فان كانت محبوبة فیہما فاحبه وان كانت مکروهة فاكرهه لئلا تحبه بهواک و تبغضه بهواک قال اللہ ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل اللہ“ ترجمہ: جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش کر، اگر ان میں پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت رکھ اور اگر نا پسند ہوں تو کراہت، تاکہ اپنی خواہش سے نہ کوئی دوست رکھے نہ دشمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا دیگی خدا کی راہ سے۔

(الطبقات الكبرى للشعرانی، ترجمہ سید عبدالقادر الجلیلی، جلد 1، صفحہ 131، مصطفیٰ البانی

مصر)

اگر عشق ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟

جب عشق ہو جائے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے نکاح کرنے کی کوشش کی، اپنے گھر والوں کو اس کا رشتہ لینے کے لئے بھیجا اگر دونوں کے خاندان والے مان گئے تو بہتر ہوا۔ ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دو پیار چاہنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر اور نہیں دیکھا گیا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب ما جاء فی فضل النکاح، جلد 1، صفحہ 593، دار إحياء الکتب

العربية، الحلبي)

گھر والوں کو بھی چاہئے کہ جب اولاد اس طرح کی آفت میں گرفتار ہو جائے تو ممکن ہو تو دونوں کا نکاح کر دیں اس سے پہلے کے وہ بدنامی کا باعث بنیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، و فساد عريض“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہیں کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کی وینداری اور اچھے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ ورنہ زمین میں بہت بڑا فساد بھر پیا ہو جائے گا۔

(سنن الترمذی، ابواب النکاح، باب ما جاء إذا جاء کم من ترضون دينه فزوجوه، جلد 3، صفحہ 386،

مصطفیٰ البانی الحلبي، مصر)

پتہ چلا کہ نکاح میں نیک سیرت اور اچھے اخلاق کو ترجیح دینا چاہئے مال و دولت کو نہیں۔ بہر حال اگر نکاح ہو جائے تو ٹھیک اور اگر رشتے سے انکار ہو جائے یا جس عورت پر دل آیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو پھر حکم ہے کہ اپنے عشق کو چھپائے رکھے، کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرے۔ روضۃ المحبین میں ہے ”و ذکر عبد الملک بن قریب قال هوی رجل من النساء جارية فاشتد حبه لها فبعث إليها یخطبها فامتنعت و أجابته إلى غیر ذلك فأبى وقال لا إلا ما أحل الله ثم إن محبته ألقیت فی قلبها فبذلت له ما سأل فقال لا والله لا حاجة لی بمن دعوتها إلى طاعة الله ودعتنی إلى معصيته“ ترجمہ: عبد الملک بن قریب نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو کسی لونڈیا سے شدید عشق ہو گیا اور اس شخص نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو عورت نے انکار کر دیا اور نکاح کے

علاوہ کی طرف بلایا (یعنی زنا کی طرف بلایا)، تو اس عاشق نے انکار کر دیا اور کہا نہیں ہے مگر وہی جو اللہ عزوجل نے حلال کیا ہے۔ پھر اس عورت کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی گئی پھر اس عورت نے اس مرد سے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا: اللہ عزوجل کی قسم مجھے اس کی حاجت نہیں جسے میں نے اللہ عزوجل کی اطاعت کی طرف بلایا اور اس نے مجھے اللہ عزوجل کی محبت کی طرف بلایا۔

(روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، صفحہ 456، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

شہادت کی موت مرنے والا عاشق

اگر عاشق کو اسی حالت میں موت آگئی تو شہادت کی موت ہوگی چنانچہ اعتلال القلوب للخرائطی میں ابو بکر محمد بن جعفر الخرائطی السامری (المتوفی 327ھ) روایت کرتے ہیں ”عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من عشق ففعم فمات فهو شهید“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے عشق کیا اور اس نے شریعت کی خلاف ورزی نہ کی اور مر گیا تو وہ شہید ہے۔

(اعتلال القلوب للخرائطی، باب من عفت فی عشقہ۔۔۔ صفحہ 59، نزار مصطفی الباز، الرياض)

دوسری حدیث پاک میں ہے ”من عشق فکتہم، وعف فمات فهو شهید“ ترجمہ: جس نے عشق کیا اور اپنے عشق کو چھپایا اور شریعت پر چلا اور مر گیا وہ شہید ہے۔

(کنز العمال، حرف المہمزہ، الفصل الثانی: فی تعدید الأخلاق المحمودۃ علی ترتیب الحروف المعجمۃ، جلد 3، صفحہ 372، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

عشق اور جنت

ایک اور حدیث پاک میں ہے ”من عشق و کتم و عف و صبر غفر اللہ لہ وأدخلہ الجنة“ ترجمہ: جس نے عشق کیا اور اپنے عشق کو چھپایا اور شریعت کی پاسداری کی اور صبر کیا۔ اللہ عزوجل اس کی بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔

(کنز العمال، حرف المہمزہ، الفصل الثانی: فی تعدید الأخلاق المحمودۃ علی ترتیب الحروف المعجمۃ، جلد 3، صفحہ 373، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

بہترین عاشق

یہ وہ عشق ہے جس کی شرع میں فضیلت ہو اور ایسا عاشق ہی بہترین عاشق ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ”خيار أمتی الذین یعفون إذا آتاهم اللہ من البلاء شیئا، قالوا: وأی البلاء؟ قال: العشق“ ترجمہ: میری امت میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی پاسداری کی جب اللہ عزوجل نے انہیں بلاء میں مبتلا کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض وہ بلاء کیا ہے؟ فرمایا: عشق۔

(کنز العمال، حرف المہمزہ، الفصل الثانی: فی تعدید الأخلاق المحمودۃ علی ترتیب الحروف المعجمۃ، جلد 3، صفحہ 373، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

یہ ضروری نہیں کہ جس سے محبت ہو نکاح بھی اسی سے ہو

یہ ضروری نہیں کہ جس سے محبت کی جائے اسی سے نکاح ہو بلکہ یہ ضروری ہے کہ جس سے نکاح ہو اس سے محبت ہو جائے۔ اگر شریعت کا تقاضا ہوئے حرام کو چھوڑا جائے گا تو اللہ عزوجل بہتر حلال عطا فرمائے گا۔ روضۃ المحبین میں ہے ”وقاعدتہ أن من ترک لہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ کما ترک یوسف الصدیق علیہ السلام امرأۃ العزیز لہ واختار السجن علی الفاحشۃ فعوضہ اللہ أن مکنہ فی الأرض یتبوا منها

حيث يشاء وأنته المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال فتزوجها فلما دخل بها قال هذا خير مما كنت تريدین “ترجمہ: قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ عزوجل کیلئے کسی شے کو چھوڑا تو اللہ عزوجل نے اسے اس سے بہتر عوض عطا فرمایا جیسا کہ سچے یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی (زلیخا) کو اللہ عزوجل کیلئے چھوڑا اور فحاشی کی بنسبت جیل کو اختیار فرمایا تو اللہ عزوجل نے یوسف علیہ السلام کو اس کا عوض عطا فرمایا کہ ان کو زمین میں اس طرح (قدرت و سلطنت کے ساتھ) ٹھہرایا کہ جہاں چاہتے رہائش اختیار کرتے، اور زلیخا ان کے پاس ایک سانکھ بن کر آئیں اور حلال طریقے سے ملنے کی رغبت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی جب ان کے پاس داخل ہوئے تو فرمایا: یہ اس سے بہتر ہے جو تم چاہتی تھی۔

(روضۃ المحبین و نزیبۃ المشتاقین، صفحہ 445، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

روضۃ المحبین میں ہے ”لو ترک رکوب ذلك الفرج حراما لله لأتابه الله برکوبه أو رکوب ما هو خیر منه حلالا“ ترجمہ: اگر کسی نے اللہ عزوجل کے لئے حرام شرمگاہ پر سوار ہونے کو چھوڑا تو اللہ عزوجل اسے اس پر یا اس سے بہتر پر حلال طریقہ سے سوار کرے گا۔ (روضۃ المحبین و نزیبۃ المشتاقین، صفحہ 446، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ساری رات محبوبہ سے فون پر باتیں کرنے والوں کے لئے تنبیہ

اگر آج ہمارے نوجوان اس عشق کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیں تو کئی فتنے ختم ہو جائیں، خاندانوں کی عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں۔ ہمارے نوجوان جس قدر مال و وقت عشق معشوقی میں ضائع کرتے ہیں، اتنا ہی اگر اللہ عزوجل کی راہ میں کریں تو ولی بن جائیں۔ اس پر ایک واقعہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پیش خدمت ہے: ”زاہدوں کے سردار اور اوتاد کے پیش رو عبداللہ بن مبارک مروزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل طریقت میں ایک شاندار مقام رکھتے تھے اور جملہ احوال و اقوال اور اسباب طریقت و شریعت کے عالم تھے اور اپنے وقت کے امام تھے۔ بزرگ مشائخ کرام سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کی کئی کرامات و تصانیف مشہور ہیں۔ توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ ایک کنیز پر عاشق ہو گئے۔ ایک رات وہ رندوں کی صحبت سے اٹھے اور ایک ساتھی کو ہمراہ لے کر معشوقہ کی دیوار کے نیچے جا کھڑے ہوئے وہ چھپت پر آگئی اور دونوں صبح تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی تو عبداللہ سمجھے شاید عشاء کی اذان ہے۔ جب سورج نکلتا ہوا دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام رات دیدار میں غرق رہے ہیں۔ طبیعت کو بہت قلق ہوا۔ جی ہی جی میں کہا: اے مہاک! تجھے شرم آنی چاہئے، ساری رات خواہش نفسانی میں کھڑا رہا۔ کرامات کا بھی طالب ہے۔ نماز میں اگر امام لمبی سورت پڑھے تو برابر فروختہ ہو جاتا ہے، تیری ایمان داری کا دعویٰ کہاں ہے؟ توبہ کی اور علم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ ایک دفعہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ باغ میں سو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سانپ ریحان کی ایک شاخ منہ میں لئے (ان پر سے) لکھیاں اڑا رہا ہے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 157، ضیاء القرآن پبلیشرز، لاہور)

ساتواں سبب: اسلامی تعلیمات کی کمی

اسلامی تعلیمات کی کمی بھی بڑھتی ہوئی بے حیائی کا ایک سبب ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جسے جس طرح وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ جیسے ضروری مسائل کا پتہ نہیں وہاں پردہ وغیرہ کے احکام کا بھی پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایل۔ ایل۔ بی کا طالب علم مجھے کہتا

❁ -- باب چہارم: زنا کی روک تھام کے اقدام -- ❁

اسباب زنا سے بچنا ضروری ہے

ہماری کامل شریعت نے جہاں حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے وہاں ان اسباب سے بھی بچنے کا حکم بھی دیا ہے جو حرام فعل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں جیسے زنا کو حرام فرمایا تو دیکھنا، چھونا، غیر محرم سے خلوت کو بھی حرام فرمایا کہ یہ زنا کے اسباب ہیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح فتنہ کو حرام فرمایا دواعی فتنہ کو بھی حرام فرمایا۔۔۔ اجنبیہ سے خلوت، نظر، مس، معانقہ، تقبیل اس لئے حرام ہوئے کہ دواعی ہیں۔ دواعی کے لئے مستلزم ہونا ضرور نہیں ہزار ہا خلوت و نظر بلکہ بوس و کنار واقع ہوتے ہیں اور مدعو الیہ یعنی زنا واقع نہیں ہوتا۔“ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والفرج یصدق ذلك او یکذب به رواہ الشیخان وابوداود والنسائی عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس کو بخاری، مسلم، نسائی اور ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان فرمایا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 120، رضا فائونڈیشن، لاہور)

الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”فمن سد الذرائع إلی الزنی تحریم النظر المقصود إلی المرأة، و تحریم الخلوۃ بها، و تحریم إظهارها للزینۃ الخفیة، و تحریم سفرها وحدها سفرا بعيدا ولو لحج أو عمرة علی خلاف و تفصیل فی ذلك، و تحریم النظر إلی العورات، و وجوب الاستئذان عند الدخول إلی البيوت، و كثير من الأحكام الواردة فی الكتاب و السنة مما يتعلق

ہے کہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا، ان سے تعلقات قائم کرنا جائز ہے اور یہ حدیث شریف میں لکھا ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ایسی تو کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری (بلکہ اس کے خلاف احادیث ثابت ہیں) میں نے اسے کہا کہ جاؤ کتاب لا کر دکھاؤ۔ جب وہ کتاب لے کر آیا تو حدیث میں نکاح کی ترغیب تھی کہ عورتوں سے تعلق ختم نہ کرو یعنی نکاح نہ کرنے کا عہد نہ کرو۔ جب اسے اس حدیث کا سمجھایا گیا تو اس نے آگے سے کہا میں نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا کہ عورتوں سے تعلقات قائم کرو۔ میں نے اپنی کلاس کے لڑکے لڑکیوں کو کہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا آپس میں باتیں کرنا جائز ہے، بلکہ جو عورتیں پردہ کرتی تھیں میں ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ ان پردہ دار عورتوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔

اسی طرح کے کئی آیات و احادیث کو جاہل پروفیسر اپنی کم فہمی میں سمجھ کر لوگوں میں غلط مسائل عام کرتے ہیں اور علمائے کرام کو جاہل ثابت کرتے ہیں۔

افسوس کہ ہمارے دنیاوی علم کے نصاب میں دینی علم بالکل نہیں ہے۔ ایک مختصر سی کتاب اسلام کے متعلق ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کون کتنی پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ امتحان سے کچھ دیر پہلے رٹہ مار لیا جاتا ہے اور پیر پاس کر لیا جاتا ہے۔

(التيسير بشرح الجامع الصغير، جلد 1، صفحہ 836، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض)

شریعت نے ہر اس نفل سے منع فرمایا جو فتنہ کی طرف لیجانے والا ہو۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کیلئے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔

(سورہ احزاب، سورت 33، آیت 53)

آیت مبارک میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ فرمایا گیا جہاں ہم جیسے کسی غلط بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو عام لوگوں کا عورتوں سے خلوت میں ہونا وغیرہ کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟

آج کل کئی بے دین و بے حیا عورتیں دوسری شادی کو بے غیرتی و فتنہ کہتی ہیں جبکہ ان جاہلوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قرآن میں جو اللہ عزوجل نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے، اس میں کئی حکمتیں ہیں جن میں عورتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زنا سے بچانا بھی ہے کہ عورت کو مخصوص ایام دس دن تک آتے ہیں، حمل میں (طبی مسائل کے تحت) صحبت سے پرہیز کیا جاتا ہے خصوصاً آخری ایام میں، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ نفاس کا چلتا ہے، اس دوران خطرہ ہے کہ کہیں مرد بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائے اس لئے چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن آج کل کے بے حیا ماڈرن عورتیں انگریزوں کو راضی کرنے کے لئے اور ان سے مالی مدد لے کر اپنی این۔ جی۔ اوز چلانے کے لئے قرآن و سنت کے خلاف زبان درازی کرتی ہیں اور پس پردہ دوسری شادی کو بے غیرتی کہہ

بذلک“ ترجمہ: زنا کی روک تھام میں سے ہے کہ عورت کی طرف نظر مقصود (قصد اس کی طرف نظر) حرام ہے، اس سے خلوت حرام ہے۔ عورت کے لئے مردوں پر خفیہ زینت کا اظہار حرام ہے، عورت کے لئے غیر محرم کے ساتھ دور کا سفر اگرچہ وہ سفر حج و عمرے کا ہو حرام ہے اور اس مسئلہ میں تفصیل ہے۔ ستر عورت کی طرف نظر حرام ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت واجب ہے اور اسی طرح کثیر مسائل کتاب و سنت میں اس کے متعلق وارد ہیں۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 24، صفحہ 270، دار الصفة، مصر)

سنن ابو داؤد، نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ”عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فبهي كذا وكذا يعني زانية“ ترجمہ: حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عورت جب خوشبو لگا کر مجلس پر گزرے تو وہ ایسی ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی کراہیة خروج المرأة متعطرة، جلد 5، صفحہ 106، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث کی شرح کے متعلق التیسیر بشرح جامع الصغیر میں ہے ” (أيما امرأة استعطرت) أي استعملت العطر أي الطيب یعنی ما ظهر ريحه منه (ثم خرجت) من بيتها (فمرت على قوم) من الأجنب (ليجدوا ريحها) أي بقصد ذلك (فهى زانية) أي عليها مثل إثم الزانية لأن فاعل السبب كفاعل المسبب“ ترجمہ: کوئی عورت ایسی خوشبو لگائے جس کی رنگت ظاہر ہو پھر وہ گھر سے باہر نکلے اور اجنبی قوم پر گزرے اور اس قوم کو یہ خوشبو آئے، عورت کا مقصد بھی یہی ہو تو اس پر زنا کی مثل گناہ ہے اس لئے کہ فاعل سبب فاعل مسبب ہے۔

کر معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام و بزرگان دین پر طعن کرتی ہیں کہ انبیاء کرام و بزرگان دین سے ایک سے زائد شادیاں کرنا ثابت ہے۔

پھر کئی بے حیاء بھی کہتی ہیں کہ مرد ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ بیٹک اللہ عزوجل بے حیائی کا حکم نہیں فرماتا۔

ایک عورت پر دو مردوں کا اجتماع صریح بے حیائی ہے، جسے انسان تو انسان جانوروں میں بھی جو سب سے خبیث تر ہے یعنی خنزیر وہی روا رکھتا ہے۔ حرمت زنا کی حکمت نسب کا محفوظ رکھنا ہے، ورنہ پتہ نہ چلے کہ بچہ کس کا ہے۔ اگر عورت سے دو مردوں کا نکاح جائز ہو تو وہی قباحت کہ زنا میں تھی یہاں بھی عائد ہو معلوم نہ ہو سکے کہ بچہ کس کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 302، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

پہلا قدم: اسلامی تعلیمات کا نفاذ

زنا سے روک تھام کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا جائے۔ صاحب اقتدار لوگ اسلامی قوانین کو لاگو کریں، حدود کے مسائل میں شرعی سزائیں دی جائیں۔ اسکول کالجوں میں اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں۔ ہر نوجوان کو زنا و بے حیائی کے عذابات و نقصانات سے روشناس کروایا جائے۔ حکومتی اور میڈیا سطح پر اگر بے حیائی کی مذمت کی جائے گی تو یہ بہت زیادہ کارآمد ہوگی۔ لیکن افسوس کہ حکومت اور میڈیا بے حیائی کو روکنے کی بجائے اسے عام کرنے میں کوشاں ہیں۔

دوسرا قدم: شرعی پردہ

شرعی پردہ زنا سے روک تھام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پردے کا ثبوت قرآن وحدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور وہ دوٹپے اپنے گریبانوں پر ڈال لے رہیں۔ (سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 31)

السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے ”عن ابن عباس قال ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال ما فی الکف والوجه“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، تھیلیوں اور چہرے کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔

(السنن الکبریٰ، باب عورة المرأة النجسة، جلد 2، صفحہ 315، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

لہذا سوائے چہرے اور تھیلیوں کے عورت پر فرض ہے کہ وہ سر سمیت تمام جسم کو چھپائے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، شعب الایمان، معرفۃ السنن والآثار اور السنن الصغیر للبیہقی میں ہے ”عن عائشة أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم یصلح أن یرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى کفه ووجهه“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسماء جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے لئے درست نہیں کہ سوائے ان اعضاء کے اس کا جسم دیکھا جائے اور آپ نے اپنی تھیلیوں اور چہرے کی طرف اشارہ کیا (یعنی اپنے چہرے اور تھیلیوں کے سوا کسی حصے کو ظاہر نہ کرے۔)

(السنن الصغیر للبیہقی، کتاب النکاح، باب النظر إلى امرأة یريد نكاحها، جلد 3، صفحہ 12، الدراسات الإسلامية، کراچی)

مجمع الانہر میں ہے ”(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها) لقوله عليه الصلاة والسلام بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها“ ترجمہ: آزاد عورت کا سارا جسم عورت (یعنی چھپانے کی چیز) ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آزاد عورت کا تمام بدن سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے چھپانے کی چیز ہے۔

(مجمع الانہر، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلاة، جلد 1، صفحہ 81، دار إحياء التراث، بیروت)

تبيين الحقائق، الاختيار، البناء، ملتي الابجر، البحر الرائق، مرقى الفلاح، حاشية الطحاوی، تنوير الابصار میں ہے ”و للحررة جميع بدنھا خلا الوجه والكفين“ ترجمہ: آزاد عورت کے لئے مجمع بدن سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے چھپانے کی چیز ہے۔

(تنوير الابصار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلاة، جلد 1، صفحہ 405، دار الفکر، بیروت)

اس میں کوئی شک نہیں کہ پردہ ظاہر و باطن دونوں کا ہونا چاہئے لیکن ظاہری پردے کا انکار کرتے ہوئے یہ بے دینی بات کہنا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے کفر ہے۔ جو علانیہ بے حیائی کرتا ہے وہ دل میں کیا حیا کرتا ہوگا؟ شعب الایمان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من لم یستح من اللہ فی العلانیة لم یستح منه فی السر“ ترجمہ: جو علانیہ اللہ عزوجل سے حیا نہیں کرتا وہ تنہائی میں بھی حیا نہیں کرتا۔

(شعب الایمان، فصل فی ستر العورة، جلد 10، صفحہ 186، مکتبۃ الرشد للنشر والتوزیع، بالریاض)

المعجم الأوسط کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من لا یستحی من الناس، لا یستحی من اللہ“ ترجمہ: جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ عزوجل سے بھی حیا نہیں کرتا۔

(المعجم الأوسط، باب المیم، من اسمه: محمد، جلد 7، صفحہ 161، دار الحرمین، القاہرہ)

دوسرا یہ کہ دل اگر چہ پاک ہو یہ کہاں لکھا ہے کہ دل پاک ہونے کی صورت میں بے پردگی جائز ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ و دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بڑھ کر کس کا دل پاک ہے؟ جب انہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے تو پھر آج کی عورت کیسے اس سے آزاد ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ عورت کا دل پاک ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے دیکھنے والے مردوں کا بھی دل پاک ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اسے بغیر چوں چراں قبول کرے، اپنے چسکے کے لئے اس پر اعتراض کر کے لوگوں کا وبال بھی اپنے سر نہ لے۔

یہ یاد رہے کہ چہرے کا چھپانا اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن فتنہ کی وجہ سے چہرے چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا ہے اور فتنہ کے سبب کئی علماء نے چہرہ چھپانے کو واجب لکھا ہے۔ پھر کئی عورتیں عارضی طور پر سر پر اس طرح دوپٹہ رکھتی ہیں کہ دوپٹہ ہونے کے باوجود بال واضح طور پر نظر آتے ہیں چلنے پھرنے اور ہوا سے سر بالکل ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ سر کا پردہ نہیں سر کا پردہ یہ ہے کہ کوئی بال نظر نہ آئے۔

بے پردگی اور بدننگاہی کا وبال

عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے اور مرد کو ننگا ہونے کی نینچی رکھنے کا حکم ہے۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے ”عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتغضن أبصاركم، ولتحتفظن فروجكم، ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم“ ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم ضرور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے

اور تم ضرور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو گے یا ضرور تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔

(المعجم الكبير، باب الصاد، يحيى بن أيوب المصري، جلد 8، صفحہ 208، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)
جو بے پردہ عورت بدنگاہی کروائے اور جو مرد بدنگاہی کرے اس پر لعنت کی گئی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ”لعن الله الناظر والمنظور إليه“ ترجمہ: اللہ لعنت کرے دیکھنے والے پر اور اس پر جو دیکھی جائے۔

(السنن الكبرى، ابواب الترغيب في النكاح، باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، جلد 7، صفحہ 159، دار الكتب العلمية، بيروت)

بے پردگی اور گھروالوں کا کردار

جس حصے کو چھپانا ضروری ہے اسے ظاہر کرنا حرام ہے اور اگر باپ، بھائی شوہر اس پر راضی ہوں تو وہ بھی فعل حرام کے مرتکب ہوئے۔ باپ، بھائی، شوہر پر بقدر استطاعت عورت کو پردہ شرعی کرنے کا کہنا لازم ہے وہ اس طرح کہ پہلے سمجھائے۔ اگر نہ مانے تو ڈھانٹ ڈپٹ کی جائے۔ شوہر اس سے علیحدہ سوئے، پھر بھی نہ مانے تو مارے مگر ضرب شدید نہ ہو، پھر بھی نہ مانے تو شوہر بری الذمہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے۔ ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ ترجمہ: اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوؤ اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آجائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو۔

(سورة النساء، سورة 4، آیت 34)

”واضربوهن یعنی اور انہیں مارو“ کے تحت صدقہ الافاضل سید نعیم الدین مراد

آبادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”ضرب غیر شدید“ (یعنی زیادہ شدید مار نہ ہو۔)

(خزائن العرفان صفحہ 150، مطبوعہ ضیاء القرآن، لاہور)

امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”شوہر پر فرض ہے کہ اپنی عورت کو فسق سے روکے۔ تو یہ مرد کہ انہیں منع نہیں کرتے خود فاسق ہیں اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے اور اسے امام بنانا گناہ ہے بلکہ جب اس کی عورت بازار میں ران کھولے پھرتی ہے اور وہ منع نہیں کرتا تو دیوث ہے۔۔ ہاں یہ منع کرے روکے جس قدر اپنی قدرت اس رسم شنیع کے مٹانے سے ہے صرف کرے اور پھر عورت نہ مانے تو مرد پر الزام نہ رہے گا۔“

(فتاوی رضویہ، جلد 6، صفحہ 484، رضا فائونڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”اگر باہر نکلنے میں اس کے کپڑے خلاف شرع ہوتے ہیں۔۔ اور شوہر ان باتوں پر مطلع ہو کر باوصف بندوبست نہیں کرتا دیوث ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ۔“

(فتاوی رضویہ، جلد 6، صفحہ 484، رضا فائونڈیشن، لاہور)

عورت کا بلاوجہ شرعی گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ طبرانی اوسط کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان المرأة اذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه غير الجن والانس حتى ترجع“ ترجمہ: جو عورت اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو جب تک پلٹ کر نہ آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے اور جن و آدمی کے سوا جس جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کریں۔

(المعجم الاوسط للطبرانی، باب الالف، من اسمه أحمد، جلد 1، صفحہ 164، دار الحرمین، القاهرة)

یہ لعنت صرف اس صورت نہیں کہ عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہو بلکہ اگر بلاعذر شرعی باپردہ بھی گھر سے نکلتی ہے لیکن شوہر ناراض ہے تب بھی اس پر لعنت برستی ہے۔ اگر اس

تیسرا قدم: عورتوں کا مردوں سے کلام میں احتیاط

عورت کا مرد سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ

قرآن پاک میں اللہ عزوجل نے ازواج مطہرات سے فرمایا ﴿يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ اَتَّقِيْتْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ ترجمہ کنز الایمان:۔ اے نبی کی بیویوں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے ہاں اچھی بات کہو۔

(سورۃ الاحزاب، سورۃ 33، آیت 32)

اس میں تعلیم آداب ہے کہ اگر بہ ضرورت غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجہ میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوج نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے، عفت مآب خواتین کے لئے یہی شایاں ہے۔ لہذا عورت کو اگر مرد سے کلام کرنے کی جہاں ضرورت ہو وہاں زیادہ نرم لہجہ میں بات نہ کرے بلکہ اس انداز سے کرے کہ کوئی فتنہ نہ ہو۔

بلاوجہ جوان عورت کا مرد سے باتیں کرنا ممنوع ہے، پھر اگر عورت کا کلام نرم و شریں انداز میں ہو تو اور زیادہ ممنوع ہے اور اگر شہوت آئے تو ناجائز ہے۔ احکام القرآن للجبصاص میں احمد بن علی ابو بکر الرازی الجصاص الحنفی (المتوفی 370ھ) فرماتے ہیں ”فکلامها اذا كانت شابۃ تخشى من قلبها الفتنة اولی بالنهي عنه“ ترجمہ: نوجوان عورت کو اگر مرد سے کلام کرنے میں دل میں فتنے کا خدشہ ہو تو ممانعت اور زیادہ ہے۔

(أحكام القرآن، جلد 5، صفحہ 229، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

کے ساتھ بے پردگی بھی کرے تو اور زیادہ گناہ گار ہے۔ بے پردگی پر احادیث میں کئی وعید وارد ہے چنانچہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے ”عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنفا من امتی من اهل النار لم ارهم قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس و نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت السمائلۃ لا یدخلون الجنة و لا یجدون ریحها و ان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو قسم کے لوگ جنہیں میں نے نہیں دیکھا جنہمی ہوں گے ایک تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی شکل کے کوڑے ہوں گے ان سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ دوسرے وہ کج رو نیم برہنہ اور اپنی طرف متوجہ کرنے والی عورتیں ہوں گی جن کے سر بختی اونٹوں کی ٹیڑھی کو ہانوں کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اسکی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے پر پہنچ جاتی ہے۔

(صحیح ابن حبان، باب وصف الجنة، جلد 16، صفحہ 500، مؤسسة الرسالة، بیروت)

عورت پر جن باتوں کا علم حاصل کرنا فرض و واجب ہے اور گھر میں شوہر یا کوئی اور موجود نہیں جو اسے فرض علوم سیکھا سکے، تو اس صورت میں عورت کا گھر سے نکلنا اور کسی دینی ادارہ یا محفل میں جانا جہاں اسے نماز، روزہ، پردہ وغیرہ کے مسائل کا علم حاصل ہوگا، جائز ہے۔

اگر مرد کو عورت سے بات کرنے میں شہوت آئے

عورت کی نغمہ بھری آواز پردہ ہے جسے سننا جائز نہیں۔ اگر عورت بغیر نغمہ کے بات کرے لیکن مرد کو شہوت آتی ہے تو اس کا کلام سننا بھی حرام ہے۔ الموسوعة الفقهية میں ہے ”أما إن كان صوت امرأة، فإن كان السامع يتلذذ به، أو خاف على نفسه ففتنة حرم عليه استماعه، وإلا فلا يحرم“ ترجمہ: اگر عورت کی آواز ہے اور سننے والے کو اس سے لذت مل رہی ہے یا خود فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو اس آواز کو سننا حرام ہے ورنہ حرام نہیں ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 4، صفحہ 90، دار السلاسل، الكويت)

مرد و عورت کا باہم سلام

اجنبیہ جوان عورت مرد کے سلام کا جواب اتنی آواز سے نہیں دے گی کہ مرد سن لے۔ الاختیار میں ہے ”ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها لأنه عورة وإن سلمت عليه فإن كانت عجوزاً رد عليها وإن كانت شابة رد في نفسه“ ترجمہ: عورت پر مرد کے سلام کا جواب دینا واجب ہے اور عورت سلام کے جواب میں آواز بلند نہیں کرے گی کہ اسکی آواز پردہ ہے۔ اگر عورت سلام کرے تو اگر بوڑھی ہو تو (اوپچی آواز میں) سلام کا جواب دیا جائے اور اگر عورت جوان ہو تو مرد دل میں جواب دے۔

(الاختیار، کتاب الکراہیة، فصل فی مسائل مختلفة، جلد 4، صفحہ 165، مطبعة الحلبي، القاهرة)

چوتھا قدم: عورت و مرد کا اپنی نظر کی حفاظت کرنا

شریعت نے نظر کی حفاظت کا بہت زیادہ حکم دیا ہے کہ شہوت کی ابتداء نظر سے

شروع ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہوئی شرمگاہ تک جاتی ہے۔ اسی لئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا: ”جب نظر بہکتی ہے، تب دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔“ (حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 106، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

لہذا نظر کی حفاظت لازم ہے اور نظر کے مسائل پانچ قسم کے ہیں، مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا عورت کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا:-

(1) مرد کا مرد اور عورت کا عورت کو دیکھنا

مرد دوسرے مرد کو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک نہیں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسروں کے سامنے بدن کے اس حصے کو چھپانا فرض ہے کہ کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو منع کرے اور ان کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کرے اور شرمگاہ کھولے ہوئے ہو تو اسے سزا دی جائے گی۔ اسی طرح عورت عورت کے جسم کو دیکھ سکتی ہے لیکن ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی۔ مسلم شریف میں ہے ”عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد“ ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مرد مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور عورت عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔

(مسلم شریف، باب تحريم النظر إلى العورات، جلد 1، صفحہ 266، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

عورت صالح کو یہ چاہیے کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی، مسلمان عورت کو بھی یہ حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے۔ آج کل کئی نوجوان بلکہ بوڑھے بھی اپنی رانیں کھلی رکھتے ہیں۔ جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد کو چھپانا فرض ہے اور دوسروں کا ان کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ کنز العمال میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة“ ترجمہ: جو قصد اپنے بھائی کے ستر کی طرف نظر کرے اللہ عزوجل چالیس دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔

(کنز العمال، کتاب الحدود، الإكمال من النظر، جلد 5، صفحہ 484، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہ ہجرے جو مردوں کے مشابہ ہوتے ہیں ان کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ اگر دیکھنے میں شہوت آئے تو حرام ہے۔

(2) عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا

عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا جائز ہے جبکہ بغیر شہوت کے ہو۔ درمختار میں ہے ”تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شهوتها) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل“ ترجمہ: عورت کا مرد کو دیکھنا ایسے ہے جیسے مرد کا مرد کو دیکھنا (یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے علاوہ دیکھ سکتی ہے)۔ اگر عورت کا شہوت سے امن ہو اگر امن نہیں یا شہوت کا خوف یا شک ہے تو استحسانا عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے جیسے مرد کا مرد کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی النظر

والمس، جلد 6، صفحہ 371، دار الفکر، بیروت)

(3) مرد کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا

مرد کے لئے مطلقاً عورت کو دیکھنا بسبب فتنہ ممانعت ہے اگرچہ شہوت نہ ہو۔ رد المحتار میں ہے ”وفی شرح الکرحی النظر إلى وجه الأجنبية الحرة لیس بحرام، ولكن یکره لغير حاجة اھ وظاهره الکراهة ولو بلا شهوة (قوله وإلا فحرام) أی إن کان عن شهوة حرم (قوله وأما فی زماننا فممنوع من الشابة) لا لأنه عورة بل لحوف الفتنة“ ترجمہ: شرح کرنی میں ہے کہ اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف نظر کرنا حرام نہیں ہے لیکن بغیر حاجت مکروہ ہے اور ظاہر اکراہت بغیر شہوت میں ہے۔ ورنہ شہوت ہو تو حرام ہے۔ باقی یہ کہ ہمارے زمانے میں نوجوان عورت کو چہرہ کھولنے سے منع کیا جائے جائے گا اس لئے نہیں کہ چہرے چھپانا ضروری ہے بلکہ اس وجہ سے کہ چہرہ کھلا رکھنے میں فتنے کا خوف ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی النظر

والمس، جلد 6، صفحہ 365، دار الفکر، بیروت)

عورت کے سر کے بال دیکھنا یا کلاسیاں وغیرہ دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر عورت پراچا نک نظر پڑ جائے تو معاف ہے جبکہ فوراً نظر پھیر لی جائے۔ سنن الترمذی میں ہے ”عن جریر بن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرنی أن أصرف بصری“ ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی نظر کو پھیر لو۔

(سنن الترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی نظرة الفجاءة، جلد 4، صفحہ 398، دار الغرب

(الإسلامی، بیروت)

امام احمد و ابوداؤد و ترمذی و ارمی رحمہ اللہ نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة“ ترجمہ: اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو۔ (یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹالے اور دوبارہ نظر نہ کرے) کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔

(سنن الترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء في نظرة الفجاءة، جلد 4، صفحہ 398، دار الغرب الإسلامی، بیروت)

الزہر الفائح میں شمس الدین ابن الجزری (المتوفی 833ھ) لکھتے ہیں ”وقال عليه الصلاة والسلام: من حفظ طرفه حفظ الله عليه أهله، ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم هتك الله عورته، وكحله بالنار يوم القيامة“ ترجمہ: جو اپنی نظر کی حفاظت فرمائے گا اللہ عزوجل اس کے اہل کی بھی حفاظت فرمائے گا اور جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے گا اللہ عزوجل اس کے ستر کو بھی رسوا کرے گا اور قیامت والے دن اسے آگ کا سرمہ لگائے گا۔

(الزہر الفائح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقبائح، صفحہ 30، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اسی کتاب میں ہے ”وحكى عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت فتى في الطواف تفرست فيه الخير، فنظر الفتى إلى امرأة كانت تطوف، وإذا بسهم قد أصاب عينه، فذهبت إليه وأخرجت من عينه السهم فإذا عليه مكتوب: نظرت بعينك إلى غيرنا فأعميناها، ولو نظرت بقلبك إلى غيرنا لكويناها“ ترجمہ: حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں

نے طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے باطن میں میں نے خیر دیکھی۔ اس نے ایک نوجوان عورت کی طرف نظر کی جو طواف کر رہی تھی کہ ایک تیرا کر اس نوجوان شخص کی آنکھ پر لگا۔ میں اس کے پاس گیا اور وہ تیرا اس کی آنکھ سے نکالا تو اس میں یہ لکھا تھا: تم نے ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف نظر کی تو ہم نے اس آنکھ کو اندھا کر دیا، اگر تم اپنے دل سے ہمارے علاوہ کسی غیر کو دیکھتے تو ہم اس دل کو بھی داغ دیتے۔

(الزہر الفائح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقبائح، صفحہ 30، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزید شمس الدین ابن الجزری (المتوفی 833ھ) لکھتے ہیں ”وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: -- يا داود إني جعلت في النار قطعاً من الزجاج والرصاص لمن ينظر إلى ما لا يحل له. يا داود، من نظر إلى ما لا يحل له حرمت عليه النظر إلى وجهي.“

وحكى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه قال لعيسى عليه السلام: لا تكن حديد النظر إلى ما لا يحل لك فإنه لن يزني فرجك ما حفظت عينك، فإن استطعت أن لا تنظر إلى ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل، ولن تستطيع ذلك إلا بإذن الله تعالى“ ترجمہ: کہا گیا کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی یا داؤد! میں نے شیشہ اور سیسہ سے آگ کا ایک ٹکڑا بنایا ہے اس کے لئے جو اس چیز کو دیکھے جس کا دیکھنا اسے حلال نہیں ہے۔ اے داؤد! جس نے ایسی چیز کی طرف نظر کی جس کی طرف نظر کرنا حلال نہ تھا میں نے اس آنکھ پر اپنے دیدار کو حرام فرمایا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام سے حکایت کیا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: تیری نظر کی تیزی اس طرف نہ جائے جو تیرے لئے حلال نہیں۔ اگر تو

مردوں کے سامنے چہرہ کشائی سے روکا جائے۔

اسی میں ہے ”اما فی زماننا فممنع من الشابة فہستانی“ لیکن ہمارے زمانے میں جوان لڑکی کو نقاب کشائی سے منع کیا گیا ہے۔ قہستانی

اور بڑھیا کے لئے جس سے احتمال فتنہ نہ ہو مضا لفتہ نہیں ”فیہ ایضا اما العجوز التی لا تشتہی فلا بأس بمصافحتھا ومس یدھا ان امن“ اسی کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایسی بوڑھی عورت جو نفسانی یعنی جنسی خواہش نہ رکھتی ہو اس سے مصافحہ کرنے اور اس کے ہاتھ کو مس کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اطمینان خاطر حاصل ہو۔

مگر ایسے خاندان کی نہ ہو جس کا یوں بھی سامنے آنا اس کے اولیاء کے لئے باعث ننگ و عار یا خود اس کے واسطے وجہ انگشت نمائی ہو۔ ”فانا قد امرنا ان نزل الناس منازلہم کما فی حدیث“ ام المؤمنین الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فی حدیث مرفوع ”ایاک وما یسوء الاذن“ اس لئے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کے مراتب کے مطابق سلوک کریں جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں آیا ہے اور ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچاؤ جو کانوں کو بری لگیں۔

خصوصاً جبکہ اس کے سبب جانب اقربا سے احتمال ثوران فساد ہو ”فان الفتنة اکبر من القتل“ کیونکہ فتنہ برپا کرنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 203، رضائفائونڈیشن، لاہور)

جس سے نکاح کرنا ہو اسے ایک نظر دیکھنا

حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ بقائے

اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو تیری شرمگاہ زنا نہیں کرے گی۔ اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تو عورت کے کپڑے کی طرف نظر نہ کرے جس کی طرف نظر کرنا تیرے لئے حلال نہیں تو ایسا کر اور تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا مگر اللہ عزوجل کی عطا سے۔

(الزہر الفائح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقبائح، صفحہ 30، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اجنبیہ عورت پر اچانک نظر پڑنے پر نظر پھیر لینے کی فضیلت کے متعلق مسند احمد کی حدیث پاک میں ہے ”عن أبی أمامة، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ینظر إلی محاسن امرأة أول مرة، ثم یغض بصره إلا أحدث اللہ له عبادة یجد حلاوتها“ ترجمہ: ابو امامہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی مسلمان کسی عورت کے محاسن کی طرف نظر کرے پھر نظروں کو جھکا لے تو اللہ عزوجل اس کے لئے ایسی عبادت عطا فرمائے گا کہ جس کی لذت وہ پائے گا۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث أبی أمامة الباہلی الصدی، جلد 36، صفحہ 610، مؤسسة الرسالة، بیروت)

جو ہجڑے عورتوں کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا حکم عورتوں کی طرح ہے کہ ان کے چہرے کی طرف نظر کرنا ممنوع ہے اور سر، کلاں، سینہ وغیرہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔

جوان عورت کا اپنے پیر کے سامنے بغیر پردہ آنا

جوان عورت کا اپنے پیر کے سامنے بھی بغیر پردے کہ آنا جائز نہیں ہے اور اگر شرعی پردہ کیا ہو لیکن چہرہ کھلا ہو تب بھی منع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”پردہ کے باب میں پیر وغیر پیر ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے جو ان عورت کو چہرہ کھول کر بھی سامنے آنا منع ہے۔“ فی الدر المنحتر تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بین رجال لخوف الفتنة“ در مختار میں ہے کہ جوان عورت کو اندیشہ فتنہ کی وجہ سے

کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا ”احفظ عورتک إلا من زوجتک أو ما ملکک یمینک، فقال: الرجل یکون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا یراها أحد فافعل، قلت: والرجل یکون خالیاً، قال: فالله أحمق أن یرتجیا منه“ ترجمہ: اپنے ستر کی حفاظت کر مگر اپنی بیوی اور لونڈی سے۔ صحابی نے عرض کی: آدمی اگر آدمی کے ساتھ ہو تو ستر کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: کوشش کر کہ تیرے ستر (ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک) کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ صحابی نے کہا: اگر آدمی اکیلا ہو تو کیا حکم ہے (یعنی تنہائی میں ستر ننگا رکھنے کا کیا حکم ہے؟) حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ عزوجل اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

(سنن الترمذی، ابواب الادب، باب ما جاء فی حفظ العورة، جلد 4، صفحہ 394، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

پانچواں قدم: خلوت سے اجتناب

اجنبیہ مرد و عورت کا تنہا ہونا حرام ہے

شرعی طور پر کسی مرد و عورت کا تنہائی والی جگہ پر ہونا خلوت ہے اور خلوت اجنبیہ عورت سے حرام ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”الخلوة بالاجنبیہ حرام الا۔۔ کانت عجزوا شوہاء“ ترجمہ: اجنبیہ کے ساتھ خلوت حرام ہے سوائے یہ کہ وہ عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو۔

(ردالمحتار علی الدرالمختار، کتاب الحظر والاباحت، جلد 6، صفحہ 369، دارالفکر، بیروت)

صحیح مسلم میں ہے ”عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا لا یبیتن رجل عند امرأة ثیب إلا أن یکون ناکحاً أو ذا محرم“ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

محبت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اندیشہ شہوت ہو مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر آج اتنا ایڈوانس ماحول ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ منگنی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا انٹرویو لیتے ہیں، اکٹھے منگنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، پھر فون پر باتیں ہوتی ہیں اور پارکوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اور بھائیوں کو یہ سب پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اس ناجائز فعل سے اپنے بچوں کو نہیں روکتے۔ پھر یہی لڑکا لڑکی جب فقط منگنی کے بعد ہی کھلے ماحول کے سبب بد فعلی کر بیٹھتے ہیں تو ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں۔

(4) مرد کا محرم عورتوں کو دیکھنا

جو عورتیں محرم ہیں ان کا چہرہ، سر، کلائی وغیرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے جبکہ بغیر شہوت ہو۔ بہار شریعت میں ہے: ”جو عورت اس کے محرم میں ہو اس کے سر، منہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے جب کہ دونوں میں سے کسی میں شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ محرم کے پیٹ، پیٹھ اور ران کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح گھٹنے اور کروٹ کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے۔ کان اور گردن اور شانہ اور چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔“

(بہار شریعت، جلد 3، حصہ 16، صفحہ 444، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

(5) میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا

میاں بیوی ایک دوسرے کو ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کر سکتے ہیں شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں، ہاں بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کریں کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف

دخل الشيطان بينهما، وليزحم رجل خنزيرا متلطنها بطين، أو حمأة خير له من أن يزحم منكبها منكب امرأة لا تحل له“ ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو عورتوں کے ساتھ خلوت سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مرد و عورت تنہا نہیں ہوتے مگر شیطان ان دونوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ آدمی خنزیروں کی بھیڑ میں مٹی یا کچھڑ میں آلودہ ہو جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیڑ میں اس کا کندھا ایک ایسی عورت کے کندھے کو لگے جو عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے۔

(المعجم الكبير، باب الصاد، يحيى بن أيوب المصري، جلد 8، صفحہ 205، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك؟ قال: ومنى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم“ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے (یعنی شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی) ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی مگر اللہ عزوجل نے میری اس کے مقابل میں مدد فرمائی وہ (شیطان) مسلمان ہو گیا۔

(سنن الترمذی، ابواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، جلد 2، صفحہ 466، دار الغرب الإسلامي، بیروت)

صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يدخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال يا رسول

فرمایا: کوئی شخص شادی شدہ عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے مگر یہ کہ اس عورت کا محرم یا شوہر ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحريم الخلوۃ بالأجنبية والدخول علیها، جلد 4، صفحہ 1710، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے ”والمراد من البيوتة هنا التخلی ليلا كان او نهارا“ ترجمہ: یہاں بیوتہ سے مراد خلوت اختیار کرنا ہے چاہے رات میں ہو یا دن میں۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب النظر الى المخطوبة وبيان العورات، جلد 5، صفحہ 2051، دار الفكر، بیروت)

علامہ سبکی بن شرف الدین نووی فرماتے ہیں ”وفى هذا الحديث تحريم الخلوۃ بالأجنبية وإباحة الخلوۃ بمحارمها وهذا الأمران مجمع عليهما“ ترجمہ: اس حدیث میں اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کی حرمت اور محرم عورت کے ساتھ خلوت کی اباحت کا بیان ہے اور ان دونوں باتوں پر اجماع ہے۔

(شرح النووي على المسلم، کتاب السلام، باب تحريم الخلوۃ بالأجنبية والدخول علیها، جلد 14، صفحہ 153، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

سنن ترمذی میں ہے ”روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان“ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرد جب عورت کے ساتھ خلوت میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، جلد 3، صفحہ 474، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

المعجم الكبير للطبرانی میں ہے ”عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والخلوة بالنساء، والذي نفسى بيده، ما خلا رجل وامرأة إلا

اللہ امرأتی خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا كذا قال (ارجع فحج مع امرأتك) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: محرم کے علاوہ کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ! میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام اتنے عرصے کے لئے جہاد (میں شرکت کرنے والوں) میں لکھ لیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”تم لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔“

(صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب لا يدخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، جلد 5، صفحہ 2005، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت)

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے خواہ دونوں کیسے ہی پاکباز ہوں اور کسی (نیک) مقصد کے لئے ہی جمع ہوں مگر شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے اور دونوں کے دلوں میں ضرور ہیجان پیدا کرتا ہے، خطرہ ہے کہ زنا واقع کرا دے۔ اس لئے ایسی خلوت سے بہت ہی احتیاط چاہئے۔ گناہ کے اسباب سے بھی بچنا لازم ہے۔ بخارروکنے کے لئے نزلہ زکام کو روکو۔“

(مرأة المناجیح، جلد 05، صفحہ 21، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

فیض القدر میں ہے ”ألا لا يدخلون رجل بامرأة) أى أجنبية (إلا كان الشيطان ثالثهما) بالسوسة وتهيج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه والنهي للتحريم“ ترجمہ: خبردار! مرد اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہو تو شیطان ان دونوں کا تیسرا ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے، شہوت ابھارنے، حیا ختم کرنے اور گناہ میں ڈالنے

کے ذریعے۔ یہاں تک ان دونوں کو زنا یا اس تک پہنچانے والے معاملات میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ ممانعت تحریم کے لئے ہے۔

(فیض القدير شرح الجامع الصغير، جلد 01، صفحہ 787، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض)

عورت کی نوکری کی شرائط

جو عورتیں نوکریاں کرتی ہیں ان کے لئے بھی حرام ہے کہ اپنے کلک یا بوس کے ساتھ کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھیں اور ان کے سامنے بے پردہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت عورت کے لئے نوکری کرنے کی شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”یہاں پانچ شرطیں ہیں:-

- (1) کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔
- (2) کپڑے تنگ و چست نہ ہو جو بدن کی ہیأت ظاہر کریں۔
- (3) بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔
- (4) کبھی نا محرم کے ساتھ کسی خفیف دیر کے لئے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔
- (5) اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مظنہ فتنہ نہ ہو۔

یہ پانچ شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں اور ان میں ایک بھی کم ہے تو حرام۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 248، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

قریبی غیر محرم رشتہ دار سے خلوت زیادہ خطرناک ہے

پھر خلوت میں جتنا قریبی غیر محرم رشتہ دار ہوتا ہے زیادہ خطرہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے ”وعن عقبه بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال

رجل من الانصار افرائیت الحموی قال الحموی موت “ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ دیور موت ہے۔

(بخاری شریف، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول علی المغیبة، جلد 5، صفحہ 2005، دار ابن کثیر، الیمامة، بیروت)

محدثین رحمہم اللہ نے ”الحمو“ میں دیور، شوہر کے چچا کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے و دیگر قریبی رشتہ داروں کو شامل کیا ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے ”الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه وقال النووی المراد من الحموی فی الحدیث أقارب الزوج غیر آبائہ وأبنائہ لأنہم محارم للزوجة یجوز لہم الخلوۃ بہا ولا یوصفون بالموت قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوہم ممن یحل لہا تزویجہ لو لم تکن متزوجة و جرت العادة بالتساہل فیہ فیخلو الأخ بامرأة أخیہ فشبہہ بالموت“ ترجمہ: ”حمو“ سے مراد شوہر کا بھائی اور شوہر کے دیگر رشتہ دار جو دیور سے مشابہ ہوں وہ مراد ہیں جیسے چچا کا بیٹا وغیرہ۔ امام نووی نے فرمایا حدیث میں ”حمو“ سے مراد شوہر کے آباء اور بیٹے نہیں کیونکہ یہ عورت کے محارم ہیں اور ان سے عورت کا خلوت کرنا جائز ہے اور ان کے ساتھ موت کو موصوف نہیں کیا جائے گا۔ حموموت ہونے سے مراد شوہر کے بھائی، اس کے بھائی کا بیٹا، چچا کا بیٹا، بہن کا بیٹا وغیرہ مراد ہیں جن سے عورت کا نکاح جائز ہوتا ہے جب وہ اس شخص کے نکاح میں نہ رہے۔ لوگ ان رشتہ داروں کے متعلق تساہل کرتے ہیں اور دیور بھابھی سے خلوت کرتا ہے جو موت سے مشابہ ہے۔

(عمدۃ القاری، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول علی المغیبة، جلد 20، صفحہ 213، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اگر محرم کے ساتھ بھی خلوت سے شہوت آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی خلوت حرام ہے۔

چھٹا قدم: نیکیوں کی صحبت اختیار کرنا

نیکیوں کی صحبت اور باعمل پیر کی بیعت بھی حرام افعال سے بچانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ”مثل الحلیس الصالح والحلیس السوء، کمثل صاحب المسک و کیر الحداد، لا یعدمک من صاحب المسک إما تشتریہ، أو تجد ریحہ، و کیر الحداد یحرق بدنک، أو ثوبک، أو تجد منه ریحاً خبیثة“ ترجمہ: اچھے مصاحب اور برے ہمنشین کی کہاوٹ ایسی ہے جیسے مشک والا اور لوہار کی بھٹی کے۔ مشک والا تیرے لئے نفع سے خالی نہیں یا تو اس سے خریدے گا کہ خود بھی مشک والا ہو جائے گا ورنہ خوشبو تو ضرور پائے گا۔ اور لوہار کی بھٹی تیرا گھر پھونک دے گی یا کپڑے جلادے گی یا کچھ نہیں تو اتنا ہوگا کہ تجھے بدبو پہنچے گی۔

(صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب فی العطار، جلد 3، صفحہ 63، دار طوق النجاة، مصر)

کامل پیر سے نسبت زنا سے بچانی ہے

کئی بزرگوں کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے روحانی طور پر آ کر اپنے مرید کو زنا سے بچایا۔ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب پاک ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف دعوت دی تو آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے شکل میں حضرت جبرائیل امین بطور رہنما حاضر ہوئے چنانچہ زہرۃ المجالس میں عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری (المتوفی 894ھ) لکھتے ہیں ”فی قوله تعالیٰ لولا أن رأى برهان ربه

قیل أنه رأى شخصا خرج من حائط فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة الآية فتحول يوسف عليه السلام إلى الحائط الآخر وإذا بالقلم يكتب وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين فتحول إلى الحائط الآخر له إذا بالقلم يكتب يعلم خائنة الأعين فتحول إلى الحائط الآخر فكتب كل نفس بما كسبت رهينة فنظر إلى الأرض فكتب إنني معكما أسمع وأرى فنظر إلى سقف البيت فرأى جبريل في صورة يعقوب عاضا على إصبه فوق يوسف مغشيا عليه من الحياء وقيل رأى الحب الذي كان فيه فقبل له يا يوسف أنسيت هذا وقيل رأى حوراء من الجنة فتعجب من حسنها فقال لمن أنت فقالت لمن لا يزني “ترجمہ: اللہ عزوجل کے اس قول ”اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔“ کے متعلق کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو دیوار سے نکلا تو اس نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے دروازے کی طرف مڑے تو اس پر قلم کے ساتھ لکھتا ہے: اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور دروازے کی طرف مڑے تو وہاں قلم کے ساتھ یہ لکھا: اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ۔ دوسرے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں لکھا: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زمین پر دیکھا تو لکھا: میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا۔ جب چھت کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں اس طرح کھڑے تھے کہ اپنی انگلی دانتوں میں لئے کاٹ رہے تھے (یعنی یہ اشارہ بچے رہنے کی طرف اشارہ تھا) حضرت یوسف علیہ السلام پر حیا کے سبب غشی طاری

ہوگئی۔ کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کنواں دیکھا جس میں ڈالے گئے تھے اور ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اس کو بھول گئے ہیں۔ کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جنت میں حور کو دیکھا اور اس کے حسن سے تعجب کیا اور اسے فرمایا تو کس کے لئے ہے، اس حور نے جواب دیا: جو زمانہ کرے۔

(نزہۃ المجالس ومنتخب النفاث، جلد 1، صفحہ 102، المطبعة الكاستلية، مصر)

پھر پیراگر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو تو بات ہی کچھ اور ہے۔ حضور غوث پاک کی سیرت پر لکھی گئی مستند کتاب ”بہجۃ الاسرار“ میں ہے: ”حضرت سید ابوالعباس احمد بن شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الغنائم محمد حسینی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرے والد نے دمشق میں فرمایا کہ ہمارے شیخ محی الدین عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو ستر (70) مرتبہ خواب میں احتلام ہوا۔ وہ ہر دفعہ ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جس کو پہلے نہ دیکھا تھا۔ ان میں سے بعض عورتوں کو تو پہچانتا تھا اور بعض کو نہیں پہچانتا تھا۔

جب صبح ہوئی تو وہ شیخ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا کہ اس کی شکایت کرے۔ تب اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ تم اس کو برانہ مانو کیونکہ ”انی نظرت الی اسمک فی اللوح المحفوظ مراتب فیہ انک تزنی سبعین مرة بفعلانة فعلانة“ میں نے لوح محفوظ میں تیرے نام کو دیکھا تھا اور اس میں یہ تھا کہ تو ستر (70) بار فلاں فلاں عورت سے زنا کرے گا۔

آپ نے ان عورتوں کا نام و حال بھی اس کے سامنے بیان کیا، پھر فرمایا ”فسألت اللہ تعالیٰ حتی حول عنک ذالک من القطة الی النوم“ میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا، جس نے تیرے لئے بیداری سے وہ نیند کی طرف بدل دیا۔“

(امام الاولیاء ترجمہ بہجۃ الاسرار، صفحہ 236، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور)

حرفِ آخر

حرفِ آخر یہی ہے کہ زنا دنیا و آخرت کی بربادی ہے اور پاکیزہ زندگی دنیا و آخرت میں فائدہ بخش ہے۔ زنا ایسا نشہ ہے کہ اگر ایک بار کیا تو پھر بار بار اور اگر ایک بار نہیں تو پھر کبھی نہیں۔

کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بہن بیٹی سے عشق کرے؟

آج جوانی کی مستی میں عشقِ معشوقی و بے حیائی کی جارہی ہے، لوگوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو رانجھا، محنوں، پینوں سمجھا جا رہا ہے اور جو عشق میں رکاوٹ ڈالتا ہے اسے ولن سمجھا جا رہا ہے، کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی دوسرا ہماری بہن، بیٹی سے بھی عشق کر سکتا ہے، اس سے بدکاری کر سکتا۔ آج اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ تمہاری گرل فرینڈز کتنی ہیں؟ تو وہ بڑی خوشی و فخر سے بتائے گا کہ اتنی اتنی ہیں، اگر اسی سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری بہن کے بوائے فرینڈز کتنے ہیں تو فوراً آگ بگولہ ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ جس طرح مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی میری بہن، بیٹی سے عشق کرے اسی طرح دوسرے بھی پسند نہیں کرتے۔ الترغیب والترہیب میں ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”أتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام شاب فقال:

یا رسول اللہ ائذن لی فی الزنا فصاح الناس وقالوا: مه. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أقرؤہ، أدنؤہ. فأتی حتی جلس بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أتحبہ لأمک؟ قال: لا. قال: وکذا الناس لا یحبون لأمهاتہم. أتحبہ لابنتک؟ قال: لا. قال: وکذا لا یحب الناس لبساتہم، أتحبہ لأختک؟ قال: لا. قال: وکذا الناس لا یحبون

لأخواتہم. أتحبہ لعمتک؟ قال: لا. قال: وکذا الناس لا یحبون لعمانہم. أتحبہ لخالک؟ قال: لا. قال: وکذا الناس لا یحبون لخالاتہم؛ فاکرہ لہم ما تکرہ لنفسک وحب لہم ما تحب لنفسک. فقال: یا رسول اللہ ادع اللہ أن یطہر قلبی. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ فقال: اللہم اغفر ذنبہ، وطہر قلبہ وحصن فرجہ. قال: فلم یکن یلتفت إلى شیء“

ترجمہ: ایک جوان حاضر خدمت اقدس ہوا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے ڈانٹا اور اسے روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے قریب بلایا یہاں تک کہ وہ آپ کے قریب آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کی: نہ۔ فرمایا: اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں سے زنا کیا جائے۔ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کیا جائے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے اسے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا: کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن سے زنا کیا جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا: اسی طرح لوگ اپنی بہنوں کے متعلق اسے پسند نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی سے زنا کیا جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اپنی پھوپھیوں سے زنا ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ پوچھا کیا تو اپنی خالہ کے متعلق پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو جو تو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے دوسرے کے حق میں بھی اسے ناپسند کر اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
ترجمہ: جو کسی سے دو ہزار درہم کے عوض زنا کرے گا اس کے اہل میں سے
چوتھائی درہم کے عوض زنا کیا جائے گا۔ بے شک زنا ایک قرض ہے، اگر تو اسے قرض لے گا
تو جان لے اس کی ادائیگی تیرے گھر والے ادا کریں گے۔

(غذاء الألباب فی شرح منظومة الآداب، جلد 2، صفحہ 440، مؤسسة قرطبة، مصر)

اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من زنی زنی بہ“ ترجمہ:
جو زنا کرے گا اس سے بھی زنا کیا جائے گا۔

(کنز العمال، کتاب الحدود، الفرع الأول فی الوعيد علی الزنا، جلد 5، صفحہ 456، مؤسسة
الرسالة، بیروت)

الزواج عن اقرار الکبار میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 974ھ) لکھتے
ہیں ”أن الزنا له ثمرات قبيحة: فمنها أنه يورد النار والعذاب الشديد، وأنه يورث
الفقر وأنه يؤخذ بمثله من ذرية الزاني، ولما قيل لبعض الملوك ذلك أراد تجربته
بابنة له وكانت غاية في الجمال أنزلها مع امرأة فقيرة وأمرها أن لا تمنع أحدا
أراد التعرض لها بأى شيء شاء ثم أمرها بكشف وجهها وأنها تطوف بها في
الأسواق فامتثلت فما مرت بها على أحد إلا وأطرق رأسه عنها حياءً وخجلاً،
فلما طافت بها المدينة كلها ولم يمد أحد نظره إليها حتى قربت بها من دار
الملك لتريد الدخول بها فأمسكها إنسان وقبلها ثم ذهب عنها، فأدخلتها على
الملك فسألها عما وقع فذكرت له القصة فسجد لله شكراً وقال الحمد لله ما
وقع مني في عمري قط إلا قبلة لامرأة وقد قوصت بها“ ترجمہ: بے شک زنا کہ

وآلہ وسلم! اللہ عزوجل سے دعا کریں کہ میں دل کو پاک کر دے۔ حضور علیہ السلام نے
اپنا دست اقدس اس کے سینہ پر رکھا اور دعا کی: الہی عزوجل! اس کے گناہ معاف فرما اور اس
کے دل سے زنا کی محبت نکال دے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد میں زنا کی طرف
متوجہ نہ ہوا۔

(التغییب والترہیب، باب الزای، باب التریب من الزنا، جلد 2، صفحہ 228، دار الحدیث، القاہرہ)

آج اپنی نظر کی حفاظت کر لو کل کو تمہارے گھر والوں کی حفاظت ہوگی

اگر آج لوگوں کی بہن، بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہماری بھی بہن،
بیٹیوں کی عزت کو اللہ عزوجل محفوظ فرمائے گا۔ اگر آج کسی کی عزتوں کو پامال کریں گے کل
اپنے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ غذاء الألباب فی شرح منظومة الآداب میں شمس الدین ابو
العون محمد بن احمد بن سالم السفارینی الحنبلی (المتوفی 1188ھ) لکھتے ہیں ”قال الإمام
ابن مفلح فی الآداب الكبرى: قال بعض العباد: نظرت امرأة لا تحل لی فنظر
زوجتی من لا أريد“ ترجمہ: امام ابن مفلح نے آداب کبریٰ میں فرمایا: ایک عابد نے فرمایا
کہ میں نے ایسی عورت کو دیکھا جسے دیکھنا میرے لئے حلال نہ تھا تو میری بیوی کو بھی دیکھا
گیا جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا۔

(غذاء الألباب فی شرح منظومة الآداب، جلد 2، صفحہ 439، مؤسسة قرطبة، مصر)

زنا ایک قرض ہے

بزرگوں نے فرمایا کہ زنا ایک قرض ہے جو اس کے گھر والے چکائیں گے۔ غذاء
الألباب فی شرح منظومة الآداب میں شمس الدین ابو العون محمد بن احمد بن سالم السفارینی
الحنبلی (المتوفی 1188ھ) لکھتے ہیں:-

من یزن فی قوم بألفی درهم فی أهلہ یزنی بربع الدرهم

نتائج بہت فنیج ہے، اسکا عذاب شدید ہے زانی آگ پر پیش کیا جائے گا اور زانی فقر و فاقہ کا شکار ہوگا اور جو اس نے لوگوں سے زنا کیا اس کی زانی اولاد سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب یہ (بدلے والی) بات کسی بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے اس کا تجربہ اپنی بیٹی پر کرنا چاہا۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک فقیر عورت کے ساتھ بھیجا اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ اپنا چہرہ کھلا رکھے اور بازاروں پر چکر لگائے، جو شخص اس سے کچھ کرنا چاہے اس سے کوئی تعرض نہ کرے (یعنی جو بھی اس سے جو حرکت کرنا چاہتا ہے یہ اسے وہ کرنے دے۔) تو اس کی بیٹی جہاں سے بھی گزرتی لوگ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتے۔ اس نے پورا شہر گھوم لیا اور کسی نے اس کی طرف نظر نہ کی، جب وہ بادشاہ کے گھر کے قریب ہوئی کہ اس میں داخل ہو تو اسے ایک شخص نے اسے پکڑا اور اس کا بوسہ لے لیا اور پھر چلا گیا۔ جب بیٹی گھر میں داخل ہوئی تو بادشاہ نے اس سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ الحمد للہ عزوجل! میں نے ساری زندگی کسی سے زنا نہیں کیا مگر یہ کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا بوسہ لیا تھا، جس کا بدلہ آج پورا ہو گیا۔

(الزواج عن اقتراء الكبائر، جلد 2، صفحہ 222، دار الفکر، بیروت)

اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں کچھ

اس طرح بیان کیا ہے ”حکمی انہ کان رجل سقاء بمدینة بخاری یحمل الماء الی دار صائف مدة ثلاثین سنة وکان لذلك الصائف زوجة صالحه فی نهاية الحسن والبهاء فحاء السقاء علی عادته یوما وأخذ بیدها وعصرها فلما جاء زوجها من السوق قالت ما فعلت الیوم خلاف رضی اللہ تعالیٰ فقال ما صنعت فالحق فقال جاءت امرأة الی دکانی وکان عندی سوار فوضعتہ فی ساعدہا

فأعجبنی بیاض یدھا فعصرتها فقالت اللہ اکبر هذه حکمة خیانة السقاء الیوم فقال الصائف أیتها المرأة انی تبت فأجعلینی فی حل فلما کان من الغد جاء السقاء وتاب وقال یا صاحبة المنزل اجعلینی فی حل فان الشیطان قد أضلنی فقالت امض فان الخطأ لم یکن إلا من الشیخ الذی فی الدکان فاقتص اللہ منه فی الدنیا“ ترجمہ: بخاری شہر کا ایک شخص تیس سال تک ایک سنار کے گھر پانی بھرتا رہا۔ اس سنارے کی ایک صالحہ بیوی تھی جو انتہائی خوبصورت اور مانوس کن تھی۔ ایک دن حسب معمول پانی والا آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دبا لیا۔ جب اس کا شوہر بازار سے آیا تو عورت نے پوچھا کہ آج تم نے اللہ عزوجل کی کونسی نافرمانی کی ہے؟ شوہر نے کہا کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب عورت نے اصرار کیا تو شوہر نے بتایا کہ آج ایک عورت میری دکان پر آئی اس کے پاس ایک کنگن تھا جو اس نے بازو سے اتار کر رکھا۔ میں نے اس کے بازو کی سفیدی کو دیکھ کر تعجب کیا اور اسے دبا لیا۔ (یہ سن کر سنار کی) بیوی نے کہا: اللہ اکبر یہی حکمت تھی پانی والے کی آج خیانت کرنے میں۔ سنار نے کہا تو جو کوئی عورت ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے اس گناہ سے معافی دیدے۔ جب اگلا دن آیا تو پانی والا آیا اور اس نے توبہ کی اور کہا اے گھر کے مالک! مجھے معاف کر دے، بے شک شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا۔ عورت نے کہا چلا جا! بے شک یہ خطا میرے شوہر سے ہوئی جس کا اللہ عزوجل نے اسے دنیا میں بدلادے دیا۔

(روح البیان، جلد 4، صفحہ 150، دار الفکر، بیروت)

زنا سے بچنے کا نسخہ

لوگوں میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ اپنی اولاد اور پرانی عورت ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ آخر پرانی عورت اور اپنی بیوی میں فرق کیا ہے؟ تو

من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتى رجلاً خبيثاً فتبيت عنده حتى تصبح“ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زانیوں کا حال ایک مثال کے ذریعے یوں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر رہا جن کے سامنے ایک طرف دیگیچوں میں پاکیزہ پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف گلا سڑا خراب گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر گلے سڑے گوشت کو کھا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی: یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس اس کی اپنی حلال پارسا بیوی ہے وہ اسے چھوڑ کر بدکار عورت کے پاس آ کر صبح تک رات گزارتا ہے، اور وہ عورت ہے جو اپنے حلال پارسا شوہر کو چھوڑ کر بدکار شخص کے ہاں صبح تک رات گزارتی ہے۔

(تفسیر روح البیان، ج 5، ص 110، دار الفکر، بیروت)

دعا ہے کہ اللہ عزوجل مجھے، میری آنے والی نسلوں، ناشر، قارئین اور مسلمانوں کو اس زنا جیسے منحوس فعل سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ثابت ہوگا کہ یہ صرف شیطانی چکر ہے کہ جس نے لوگوں کو برائی میں پھنسا رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبْتَهُ، فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الذِّي مَعَهَا“ ترجمہ: بے شک عورت شیطانی صورت میں سامنے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور اسے وہ عورت اچھی لگے تو وہ اپنے بیوی کے پاس آئے کہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب الرضاع، باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، جلد 3، صفحہ 456، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

اس بات کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو یقیناً زنا کو کسی حد تک معاشرے سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ زنا میں شیطانی لذت ہے مگر برکت نہیں اور بیوی کے پاس اگرچہ زنا جیسی لذت نہ ہو لیکن برکت ضرور ہے۔ پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں پر آنے والے ایسے ہیں جیسے تازہ اور پاکیزہ گوشت چھوڑ کر گلا سڑا گوشت کھانے والے، اسی طرح حلال اور پارسا شوہروں کو چھوڑ کر بدکار لوگوں کے پاس آنے والیاں ایسی ہی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں معراج کی رات گناہگاروں کے متعلق دکھائے گئے احوال میں یہ بھی ہے ”و كشف له عن حال الزناة بضرب مثل فاتی علی قوم بین أیدیهم لحم نضیج فی قدور ولحم نیء ایضا فی قدور خبیث فجعلوا يأكلون من ذلك النیء الخبیث ویدعون النضیج الطیب فقال (ما هذا یا جبریل) قال هذا الرجل من أمتك یكون عنده المرأة الحلال الطیب فیأتی امرأة خبیثة فیبيت عندها حتی یصبح والمرأة تقوم

- (15) ابو حنظلہ محمد جمیل عطاری قادری، کاوش، ترجمہ بھتہ الاسرار بنام امام الاولیاء، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور، 1432ھ۔ 2012ء
- (16) ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، الدینار من حدیث المشائخ الکبار، مکتبہ القرآن، القاہرہ
- (17) ابو عبد اللہ محمد بن سلامۃ، مسند الشہاب، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1407ھ۔ 1986ء
- (18) ابو بکر محمد بن الحسین بن عبد اللہ الآجری البغدادی، ذم اللواط، مکتبہ القرآن، القاہرہ
- (19) ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد الخرنطی السامری، اعتلال القلوب للخرنطی، نزار مصطفیٰ الباز، الریاض، 1421ھ۔ 2000ء
- (20) ابو جعفر الطبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1420ھ
- (21) ابو داؤد سلیمان بن داؤد، مسند ابی داؤد الطیلسی، دار ہجر، مصر، 1419ھ۔ 1999ء
- (22) ابو زکریا یحییٰ نووی، شرح صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1392ھ
- (23) ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن المبارک، الزہد والرقائق لابن المبارک، دار الکتب العلمیۃ، بیروت
- (24) ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1421ھ۔ 2001ء
- (25) ابو عبد اللہ الحاکم، المستدرک، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 1411ھ۔ 1990ء
- (26) ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الذہبی، الکبائر، دار الندوة الجدیدۃ، بیروت
- (27) ابو عبد اللہ محمد بن عمر الرازی، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1420ھ
- (28) ابو محمد محمود عینی، البنایۃ شرح الہدایۃ، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 1420ھ۔ 2000ء
- (29) ابو محمد محمود بن احمد عینی، عمدۃ القاری، دار احیاء التراث العربی، بیروت

..... المصادر والمراجع.....

مصنف کا نام کتاب کا نام مکتبہ کا نام سن اشاعت

- (1) القرآن
- (2) ابن الملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی المصری، البدر المنیر فی تخریج الأحادیث والأثار، دار الحجر، الریاض، 1425ھ۔ 2004ء
- (3) إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علی الأصہبانی، الترغیب والترہیب، دار الحدیث، القاہرہ، 1414ھ۔ 1993ء
- (4) ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الجویری، کشف المحجوب، ضیاء القرآن، لاہور، 2010ء
- (5) ابو الحسن علی بن عمر، سنن الدارقطنی، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1424ھ۔ 2004ء
- (6) ابو الخیر ابن الجوزی، الزہر الفاسح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقباہ، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 1406ھ۔ 1986ء
- (7) ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی، صید الخاطر، دار القلم، دمشق، 1425ھ۔
- (8) ابو القاسم عبد الملک بن محمد البغدادی، امالی ابن بشران، دار الوطن، الریاض، 1418ھ
- (9) ابو المظفر منصور بن محمد السمعانی، تفسیر القرآن السمعانی، دار الوطن، الریاض، 1418ھ
- (10) ابو بکر احمد البیہقی، شعب الایمان، مکتبۃ الرشید، الریاض، 1423ھ۔ 2003ء
- (11) ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار، مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورۃ، 2009ء
- (12) ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن المبارک، الزہد والرقائق لابن المبارک، دار الکتب العلمیۃ، بیروت
- (13) ابو بکر عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمی، الہند
- (14) ابو بکر عبد اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مکتبۃ الرشید، الریاض، 1409ھ

- (46) حصکفی، در مختار مع رد المحتار، دار الفکر، بیروت، 1421ھ-2000ء
- (47) زین الدین بن ابراہیم بن نجیم، البحر الرائق، دار الکتب الاسلامی، بیروت
- (48) زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن رجب بن الحسن الحسینی، اتخو یف من النار والتعریف بحال دار البوار، مکتبۃ المؤید، دمشق، 1409ھ-1988ء
- (49) زین الدین عبدالرحمن، فتح الباری لابن رجب، مکتبۃ الغرباء الاثریة، المدینة النبویة
- (50) زین الدین محمد المدعو بعد الرووف المناوی القاهری، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، مکتبۃ الإمام الشافعی، الرياض، 1408ھ-1988ء
- (51) زین الدین محمد المدعو بعد الرووف، فیض القدر، المکتبۃ التجاریة الکبری، مصر، 1356ھ
- (52) سلیمان بن احمد ابوالقاسم الطبرانی، المعجم الاوسط، دار الحرمین، القاہرہ، 1415ھ
- (53) سلیمان بن احمد ابوالقاسم الطبرانی، المعجم الکبیر، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ
- (54) سلیمان بن احمد الطبرانی، مسند الشامیین، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1405ھ
- (55) سلیمان بن الاشعث ابوداود السجستانی، سنن ابوداود، المکتبۃ العصریة، بیروت
- (56) شمس الدین، ابوالعون محمد بن احمد بن سالم السفارینی الحسینی، غذاء الالباب فی شرح منظومۃ الآداب، مؤسسۃ قرطبہ، مصر، 1414ھ-1993ء
- (57) عبدالرحمن جلال الدین السیوطی، التعقیبات علی الموضوعات، مکتبۃ اثریہ، سانگھدہل
- (58) عبدالرحمن بن عبدالسلام الصفوری، نزہۃ المجالس ومنتخب النفاکس، المطبعۃ الکاسطلیہ، مصر، 1283
- (59) عبدالعزیز بن محمد بن عبدالحسن السلیمان، موارد الظلمات لدروس الزمان
- (60) عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی، الاختیار لتعلیل المختار، مطبعۃ الحسینی، القاہرہ
- (61) عبدالوہاب شعرانی، الطبقات الکبریٰ للشعرانی، مصطفیٰ البابی مصر

- (30) ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، السعاده بجوار محافظہ، مصر، 1394ھ-1974ء
- (31) ابو یعلیٰ احمد بن علی الموصلی، مسند ابی یعلیٰ، دار المامون للتراث، دمشق، 1404ھ
- (32) احمد بن الحسین بن علی البیہقی، السنن الصغیر للبیہقی، جامعۃ الدراسات الاسلامیہ، کراچی، 1410ھ-1989ء
- (33) احمد بن الحسین، سنن الکبریٰ للبیہقی، دار الکتب العلمیہ، بیروت، 1424ھ-2003ء
- (34) احمد بن الحسین بیہقی، شعب الایمان، مکتبۃ الرشید، ریاض، 1423ھ-2003ء
- (35) احمد بن علی ابوبکر الرازی الجصاص، احکام القرآن للجصاص، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1405ھ
- (36) احمد بن علی عسقلانی، المواہب اللدنیہ، المکتب الاسلامی، بیروت
- (37) احمد بن محمد بن علی بن حجر البیہقی، الزواجر عن اقتراف الکبائر، دار الفکر، بیروت، 1407ھ
- (38) احمد بن محمد بن علی بن حجر البیہقی، الصواعق المحرقتہ علی اہل الرفض والصلال والزندقۃ، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1417ھ-1997ء
- (39) احمد رضا خان، فتاویٰ رضویہ، رضا فاؤنڈیشن، لاہور
- (40) احمد رضا خان، کنز الایمان، مکتبۃ المدینہ، کراچی
- (41) احمد یار خان نعیمی، مراۃ المناجیح، نعیمی کتب خانہ، گجرات
- (42) اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان، دار الفکر، بیروت
- (43) امجد علی اعظمی، بہار شریعت، ضیاء القرآن، لاہور، 1416ھ-1995ء
- (44) جمعیت علماء اورنگ زیب عالمگیر، فتاویٰ ہندیہ، دار الفکر، بیروت، 1310ھ
- (45) حسن بن منصور قاضی خان، فتاویٰ قاضیخان علی ہاشم الہندیہ، مکتبۃ رشیدیہ، کوئٹہ

- (79) محمود بن احمد بن عبد العزیز، الحیظ البرہانی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1424ھ
- (80) محمود بن عبد اللہ الحسینی الالوسی، روح المعانی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1415ھ
- (81) مسلم بن الحجاج ابوالحسین القشیری، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت
- (82) محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیہ، روضۃ المحدثین وزہدۃ المشفقین، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1403ھ، 1983ء
- (83) نعیم الدین مراد آبادی، خزائن العرفان، مکتبۃ المدینہ، کراچی
- (84) محمد بن عبد الہادی التتوی السندی، حاشیۃ السندی علی سنن ابن ماجہ، دارالحدیث، بیروت
- (85) نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دارالفکر، بیروت، 1412ھ
- (86) وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427ھ
- جلد 1 تا 23، الطبعة الثانية، دارالسلاسل، الكويت
- جلد 24 تا 38، الطبعة الاولى، مطابع دارالصفوة، مصر
- جلد 39 تا 45، الطبعة الثانية، طبع الوزارة
- (87) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي والادلة، دارالفکر، سورئیہ، دمشق

- (62) علی بن محمد بن ابراہیم الخازن، لباب التاویل فی معانی التزیل، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1415ھ
- (63) عثمان بن علی، تبیین الحقائق، المطبعة الکبری الامیریہ، القاہرہ، 1313ھ
- (64) علی بن حسام الدین المتقی الہندی، کنز العمال، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1989ء
- (65) علی بن سلطان محمد القاری، المعروف ملا علی قاری، الاسرار المعرفۃ المعروف بالموضوعات الکبری، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت
- (66) علی بن سلطان محمد القاری، مرقاۃ المفاتیح، دارالفکر، بیروت، 1422ھ-2002ء
- (67) فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 46، ضیاء القرآن، لاہور
- (68) محمد امین بن شامی، رد المحتار، دارالفکر، بیروت، 1421ھ-2000ء
- (69) محمد بن احمد السرخسی، المبسوط للسرخسی، دارالمعرفۃ، بیروت، 1414ھ-1993ء
- (70) محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دارطوق النجاة، مصر، 1422ھ
- (71) محمد بن جریر بن یزید الطبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1420ھ-2000ء
- (72) محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1414ھ-1993ء
- (73) محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، مصطفیٰ البابی الحلی، مصر، 1395ھ-1975ء
- (74) محمد بن محمد الغزالی ابو حامد، احیاء العلوم، دارالمعرفۃ، بیروت
- (75) محمد بن محمد الغزالی، مکاشفۃ القلوب، مکتبۃ اسلامیات، لاہور
- (76) محمد بن فرامر بن علی، درر الحکام شرح غرر الاحکام، دار احیاء الکتب العربیہ
- (77) محمد بن یزید ابو عبد اللہ القزوینی، سنن ابن ماجہ، دار احیاء الکتب العربیہ
- (78) محمد ظفر الدین بہاری، حیات اعلیٰ حضرت، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور، 1424ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علوم حدیث کی روشنی میں عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی کا دفاع

دفاعِ سنیت و حنفیت

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی کا قرآن و حدیث سے ثبوت

اہل سنت و احناف کے دلائل کے فنی حیثیت

غیر مقلدوں کے دلائل اور اعتراضات کے مستند جوابات

ابو احمد محمد انس رضا قادری

تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

عنقریب منظر عام پر آنے والی ادارے کی دیگر معرکۃ الآراء کتب

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف
1	جُحیت فقہ	مولانا محمد انس رضا قادری
2	دفاعِ سنیت و حنفیت	مولانا محمد انس رضا قادری
3	قرض کے احکام	مولانا محمد اظہر عطاری
4	مسجد انتظامیہ کیسی ہونی چاہیے؟	مولانا محمد اظہر عطاری
5	امام مسجد کیسا ہونا چاہیے؟	مولانا محمد اظہر عطاری
6	علم نافع (ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ)	مترجم مولانا محمد اظہر عطاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرض کے احکام

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

فقہ کے تمام ابواب میں موجود قرض کی صورتیں، قرض کے جدید مسائل
لیزنگ، بینک اور قرض، c,c (کیش کریڈٹ) حج و عمرہ بذریعہ بینک، چیک، انشورنس
سکیورٹی وائیڈوانس، ملکی معاملات اور قرض، انعامی بانڈز، اسکیمیں، ٹیکس، گروی، لکی، بولی والی
سکیٹی، U, Fone Lone، Mony Exchangers (ہنڈی) ادائیگی قرض کے وظائف،
اس کے علاوہ اور بہت کچھ

ابو اطهر محمد اطهر عطاری المدنی
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حُجَّتِ فِقْہ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

فقہ کی حجیت کا قرآن و حدیث سے ثبوت، فقہ کی تاریخ، فقہ کے بنیادی و ثانوی مآخذ
أصول فقہ اور اس کی تدوین، فقہی اختلافات کی وجوہات، اجتہاد و تقلید
غیر مقلدوں اور ان کی تفقہ کا تنقیدی جائزہ، فتویٰ کی اسلام میں حیثیت
عصر حاضر میں فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات
مستقبل اور موجودہ دور کے نام نہاد مجتہد

ابو احمد محمد انس رضا قادری
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور